

اصلاحی مجالس

بسلسلہ تہذیب اخلاق و تربیت باطن

- ذکر کے مختلف طریقے
- معمولات کی پابندی
- ذکر الہی کے چند آداب
- ملکہ یادداشت کا مطلب
- حصول قرب کا مختصر راستہ
- ذکر میں دل نہ لگنے کے اسباب
- درس و تدریس کے ساتھ اصلاح اعمال

حضرت مولانا مفتی محمد عثمانی مدظلہ

مہرا مہرا پبلسٹری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ابتدائی

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين
والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى
كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين، أما بعد

اللہ کے فضل و کرم سے ”اصلاح مجالس جلد ۳“ بھی تیار ہو کر آپ کے سامنے آچکی ہے۔ الحمد للہ اس جلد کے اختتام پر ”انفاس عیسیٰ“ کے باب اول ”تعلیمات“ سے متعلق مجالس کا بیان بھی پورا ہو گیا، اور اب انشاء اللہ چوتھی جلد سے انفاس عیسیٰ کے باب دوم ”تحقیقات“ اور باب سوم ”تہذیبات“ سے متعلق مجالس کے بیانات پر مشتمل ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کام کو صدق و اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ آمین۔

عبد اللہ میمن

۲۷ ذی الحجہ ۱۴۲۲ھ

اجمالی فہرست مجالس

صفحہ نمبر	موضوع	مجلس نمبر
۲۹	ذکر اللہ کی اہمیت	مجلس نمبر ۳۳
۲۹	ذکر کے مختلف طریقے	مجلس نمبر ۳۴
۴۳	نماز میں آنکھیں بند کرنا	مجلس نمبر ۳۵
۸۵	معمولات کی پابندی	مجلس نمبر ۳۶
۹۷	معمولات چھوٹنے پر حسرت اور ندامت	مجلس نمبر ۳۷
۱۱۵	ذکر الہی کے چند آداب	مجلس نمبر ۳۸
۱۳۱	ملکہ یادداشت کا مطلب	مجلس نمبر ۳۹
۱۵۳	اللہ کا راستہ کمزوروں کیلئے بھی ہے	مجلس نمبر ۴۰
۱۷۳	حصول قرب کا مختصر راستہ	مجلس نمبر ۴۱
۱۹۳	استغفار اور معمولات کی دائمیگی	مجلس نمبر ۴۲
۲۱۳	اوراد و وظائف سے مقصود "عبودیت" ہے	مجلس نمبر ۴۳
۲۲۹	ذکر میں دل نہ لگنے کے اسباب	مجلس نمبر ۴۴
۲۴۵	دین احکامات ماننے کا نام ہے	مجلس نمبر ۴۵
۲۶۳	درس و تدریس کے ساتھ اصلاح اعمال	مجلس نمبر ۴۶
۲۷۹	صحت کی دعا کرنا سنت ہے	مجلس نمبر ۴۷
۳۰۶	دنیا و آخرت دونوں اللہ سے مانگیں	مجلس نمبر ۴۸

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان
۲۹	مجلس نمبر ۳۳
۳۰	ذکر اللہ کی اہمیت
۳۱	انفاس عیسیٰ کا معمول
۳۲	رمضان کے آخری عشرہ میں آپ ﷺ کی کیفیت
۳۳	عام دنوں میں تہجد کے وقت کیفیت
۳۴	آخری عشرہ کس طرح گزارا جائے؟
۳۴	ایمان والوں سے خطاب
۳۵	ذکر میں کثرت مطلوب ہے
۳۶	دھیان کے بغیر ذکر کرنا
۳۷	زبان پر ذکر ہو دل میں خیالات ہوں
۳۸	ذکر اللہ ایک توانائی ہے
۳۹	اللہ کے ذکر نے گناہ سے روک دیا

صفحہ نمبر	عنوان
۳۹	ذکر زنگ و پے میں سرایت کر چکا تھا.....
۰	ذکر مسنون کیلئے اجازت کی ضرورت نہیں.....
۴۰	ذکر میں مشقت خود نافع ہے.....
۴۱	ذکر میں زبردستی لگے رہو.....
۴۲	دل گھبرانے کا کوئی علاج نہیں.....
۰	یہ مشقت اور بارقاندے سے خالی نہیں.....
۴۳	ایسے ذکر میں نورانیت زیادہ ہوتی ہے.....
۴۴	روحانیت اور نورانیت کی حقیقت.....
۰	ان کی کوئی حقیقت نہیں.....
۴۵	اللہ سے رابطہ استوار کر لو.....
۴۶	تمہیں یہاں پر "حرم" حاصل ہو جائے گا.....
۰	ہر حالت میں ذکر میں مشغول رہو.....
۴۹	مجلس نمبر ۳۳
۰	ذکر کے مختلف طریقے
۵۱	مشقت کے باوجود ذکر میں لگا رہے.....

صفحہ نمبر	عنوان
۵۲	نماز پڑھنے میں ابتداء مشقت ہوتی ہے.....
۵۳	ذکر جزو زندگی بن جاتا ہے.....
۵۴	حافظ ابن حجر اور ذکر اللہ.....
۵۴	ذکر کا ایک طریقہ ”ذکر جہری“.....
۵۵	ذکر کا ایک طریقہ ”ضرب“ لگانا.....
۵۵	”رگ سہاس“ پکڑ کر ذکر کرنا.....
۵۶	ذکر کا ایک طریقہ ”پاس انفاس“.....
۵۷	ذکر کے وقت ہر چیز کے ذکر کرنے کا تصور.....
۵۷	حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کا ذکر کرنا.....
۵۸	پہاڑوں اور پرندوں کے ذکر سے حضرت داؤد علیہ السلام کا فائدہ.....
۵۹	ذکر کے یہ طریقے علاج ہیں.....
۶۰	”ضرب“ لگا کر ذکر کرنے پر اعتراض.....
۶۰	پھر جو شانہ پیمانہ بدعت ہوگا.....
۶۱	یہ طریقے بدعت ہو جائیں گے.....
۶۱	”افضل“ طریقہ صرف سنت کا طریقہ ہے.....
۶۱	ذکر خفی افضل ہے.....
۶۲	ذکر جہری جائز ہے افضل نہیں.....

صفحہ نمبر	عنوان
۶۳	یہ احداث فی الدین اور بدعت ہے.....
۶۴	ذکر میں ضرب لگانا مقصود نہیں.....
۶۵	اصل مقصود ان کا نام لینا ہے.....
۶۵	ایک قوم ان طریقوں کو بدعت کہتی ہے.....
۶۶	دوسری انتہا.....
۶۶	فکر سے انس ہو جانا ذکر ہی کی برکت ہے.....
۶۷	فکر ذکر کا نتیجہ ہے.....
۶۸	ذکر مت چھوڑنا.....
۶۸	ذکر قلبی کے باوجود ذکر لسانی نہ چھوڑے.....
۶۹	جاہل پیروں کا یہ خیال گمراہی ہے.....
۷۰	شیخ عبدالقادر جیلانی کا واقعہ.....
۷۱	ذکر لسانی کو جاری رکھنا چاہئے.....
۷۲	مجلس نمبر ۳۵
۷۳	نماز میں آنکھیں بند کرنا
۷۴	آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا سنت ہے.....

صفحہ نمبر	عنوان
۷۷	حضرت شیخ الہندؒ اور اتباع سنت
۷۸	مبتدی کو آنکھیں بند کرنے کی اجازت
۷۹	زیادہ تیو دو حشت کا باعث ہوتی ہیں
۸۰	ایک خان صاحب کو راستے پر لانے کا واقعہ
۸۳	بے وضو نماز کی اجازت دینے کا اعتراض
۸۵	مجلس نمبر ۳۶
"	معمولات کی پابندی
۸۷	اپنے معمول سے زائد ذکر کرنے کا حکم
۸۸	بہترین عمل
"	مداومت کے مفید ہونے پر مثال
۸۹	معمول تھوڑا مقرر کرو لیکن پابندی سے کرو
۹۰	زائد ذکر کو معمول میں داخل نہ کرو
۹۱	اسی ذکر کو دوبارہ دہراؤ
"	حضرت گنگوہیؒ کا ایک ملفوظ
۹۲	"چک ڈور" کی مثال

صفحہ نمبر	عنوان
۹۳	خواہش باقی رہتے ہوئے عبادت چھوڑ دو
۹۴	دل عبادت میں اٹکا ہونا بہتر ہے
۹۵	تھوڑی حسرت باقی رکھو
۹۶	شیخ کی ضرورت
۹۷	خاموشی سے اپنے اندر تبدیلی لاؤ
۹۸	اتنا معمول بناؤ جس کی پابندی کر سکو
۹۹	مجلس نمبر ۳
۱۰۰	معمولات چھوٹے پر حسرت اور ندامت
۱۰۱	فرائض میں سستی کا علاج
۱۰۲	گناہوں سے بچنے کا علاج
۱۰۳	معمولات کی ادائیگی میں کم ہمتی
۱۰۴	”ندامت“ محروم نہ ہونے دیگی
۱۰۵	یہ حسرت بڑی نعمت ہے
۱۰۶	عذر قوی کے ساتھ حسرت باعث اجر ہے
۱۰۷	حضرت عبداللہ بن مبارک اور لوہار کا واقعہ

صفحہ نمبر	عنوان
۱۰۵	آذان کی آواز پر کام بند
۱۰۶	”حسرت“ نے آگے بڑھا دیا
۱۰۶	ذکر کے ذریعہ فرحت پیدا نہ ہونے کا شکوہ
۱۰۶	یہ توفیق بھی نعمت ہے
۱۰۸	لذت اور کیفیت مقصود نہیں
۱۰۸	عمل درست ہونے کی فکر کریں
۱۰۹	بیت اللہ پر پہلی نظر پڑنے پر روانہ آنا
۱۰۹	ثمرات کا انتظار خود رکاوٹ ہے
۱۱۱	خود نماز ہی مقصود ہے
۱۱۱	یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا
۱۱۲	وہ شخص قابل مبارک باد ہے
۱۱۵	مجلس نمبر ۳۸
۱۱۵	ذکر الہی کے چند آداب
۱۱۶	با وضو ذکر کرنا
۱۱۹	ذکر کیلئے تیمم بھی کر سکتے ہیں

صفحہ نمبر	عنوان
۱۲۰	کن اعمال میں تہیم کرنا جائز ہے؟
۱۲۰	نماز سے جی چرانے کا علاج
۱۲۱	ذکر کے وقت اللہ تعالیٰ کا تصور کرے
۱۲۲	ابتداءً ذکر کے الفاظ کا تصور بھی کر سکتے ہیں
۱۲۳	ذکر کے وقت دوسرے تصورات
۱۲۴	ذکر میں لذت نہ آنا زیادہ نافع ہے
۱۲۴	ذکر کے فوائد و چیزوں پر موقوف ہیں
۱۲۵	بولنے پر پابندی کے ذریعہ ایک صاحب کا علاج
۱۲۷	تعلقات کم کرو
۱۲۷	آنکھ، کان، زبان بند کر لو
۱۲۸	تعلقات کی طرف التفات زیادہ نہ ہو
۱۲۹	ان تین چیزوں کو حاصل کرنے کا طریقہ
۱۲۹	”مثنوی“ کلام وہی ہے

مجلس نمبر ۳۹

ملکہ یادداشت کا مطلب

- ۱۳۳ نماز کے اندر نہ ذکر لسانی چاہئے نہ ذکر قلبی
- ۱۳۵ قلب جاری ہونا
- ”ملکہ یادداشت“ کا مطلب
- ۱۳۶ خالق اور مخلوق دونوں سے تعلق پر تعجب
- ۱۳۷ مبتدی اور منتہی کی حالت یکساں ہوتی ہے
- ۱۳۸ درمیان والے کی حالت
- ۱۳۹ آپ کا بچوں سے پیار کرنا
- تیرے دل سے رحمت نکال دی
- تینوں حالتوں کی مثال
- ۱۴۱ ایک بزرگ کا جنت سے اعراض کرنا
- ۱۴۲ حضور ﷺ کا جنت طلب کرنا
- ہمارے اور حضور ﷺ کے جنت کی طلب میں فرق
- ۱۴۳ نگاہ دینے والے ہاتھ پر تھی

صفحہ نمبر	عنوان
۱۳۳	جنتِ رضائے خداوندی کی ایک علامت ہے
۱۳۵	چل چل کر مانگو
"	حضرت ایوبؑ کا سونے کی تتلیاں جمع کرنا
۱۳۶	ان کی طرف سے روزانہ اعلان ہو رہے ہیں
۱۳۷	ان کی رحمت سے استغناء نہ ہو
"	وہ بزرگ مغلوبِ الحال تھے
۱۳۸	چار چیزوں کی عادت ڈال لو
"	۱۔ موافق طبیعت امور پر شکر
۱۳۹	۲۔ خلاف طبیعت کاموں پر صبر
"	۳۔ ماضی کے گناہوں پر استغفار
۱۵۰	۴۔ مستقبل کے اندیشوں پر استعاذہ
"	ہر وقت اللہ سے مانگتے رہو
۱۵۱	چپکے سے دعا کر لیتا ہوں
۱۵۲	ملکہِ یادداشت حاصل کرنے کا شکلہ

صفحہ نمبر	عنوان
۱۵۲	مجلس نمبر ۲۰
=	اللہ کا راستہ کمزوروں کیلئے بھی ہے
۱۵۶	معمولات کی پابندی ضروری ہے.....
=	حدیث سے استدلال.....
۱۵۷	نوافل شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتے ہیں.....
۱۵۸	معمولات کی پابندی تو بڑا مشکل ہے.....
=	معمول ترک کر دینے کا صحیح مطلب.....
۱۵۹	رمضان میں معمولات بڑھانے پر اندیشہ.....
۱۶۰	صرف رمضان میں اس پر عمل کروں گا.....
=	حدیث سے استدلال.....
۱۶۱	کمزور کا تھوڑا عمل بھی کافی ہے.....
۱۶۳	حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ.....
۱۶۴	عبادت کی حسرت.....
=	احترام اذان.....
۱۶۵	حسرت نایافت بڑی دولت ہے.....

صفحہ نمبر	عنوان
۱۶۶	اپنا راقبہ چھوڑو.....
۱۶۷	حضرت مفتی صاحبؒ کی صاف گوئی.....
۱۶۸	اللہ کا راستہ قوی ضعیف سب کے لئے ہے.....
۱۶۸	ضعیف بھی محروم نہیں رہے گا.....
۱۶۹	ضعیف صحابہ کرامؓ کا ایک اشکال.....
۱۶۹	تسبیح فاطمی کی فضیلت.....
۱۷۰	تم اپنے حصے کا کام کر لو.....
۱۷۰	حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھئے.....
۱۷۱	تم دوڑو تو سہی.....
۱۷۱	ایک سبق آموز واقعہ.....
۱۷۲	خلاصہ.....
۱۷۳	مجلس نمبر ۴۱
۱۷۴	حصول قرب کا مختصر راستہ
۱۷۵	گھر میں بال بچوں کے ساتھ ذکر کرنا.....
۱۷۶	ایسا مانع دور کر دینا چاہئے.....

صفحہ نمبر	عنوان
۱۷۷	اس صورت میں گھر میں ہی ذکر کرے
۷	ایک مثال
۱۷۸	نفس کو اس شور و شغب کا عادی بناؤ
۱۷۹	غیر معمولی راستہ اختیار کرنا مضرب ہے
۷	یکسوئی کی زیادہ فکر مت کرو
۱۸۰	مفید ترین ذکر
۷	ذکر ماثور اوقاف بالطبع ہوتا ہے
۱۸۱	ذکر مستون میں نور اور برکت ہوتی ہے
۷	بعض لوگوں کی طبیعت
۱۸۲	اوجیہ ماثورہ سے باہر جانے کی ضرورت نہیں
۱۸۳	اتباع سنت کا راستہ زیادہ مختصر ہے
۷	اتباع سنت میں محبوبیت کی شان
۱۸۴	ایک بزرگ اور ایک بادشاہ کا واقعہ
۱۸۵	اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ
۱۸۶	بندہ کی مشیت پر اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں
۷	یہ قلندری راستہ ہے
۱۸۷	اتباع سنت کا راستہ خاموشی والا راستہ ہے

صفحہ نمبر	عنوان
۱۸۸	یہ راستہ شیطانی دساکس سے مامون ہے
۱۸۹	چکے چکے تہدیلی لاؤ.....
۱۸۹	حضور ﷺ کی نقل آثار و.....
۱۹۰	روزانہ اپنا جائزہ لو.....
۱۹۰	پانی کا قطرہ پتھر میں سویرا رخ کر دیتا ہے.....
۱۹۱	حضرت مجدد الف ثانی اور ظاہری اور باطنی ترقی کی انجام.....
۱۹۱	حضرت مجدد الف ثانی کی دعا.....
۱۹۲	درد و ماثور پڑھنے چاہئیں.....
۱۹۲	مبتدی کو ذکر اور منتہی کو تلاوت.....
۱۹۳	مجلس نمبر ۴۲
۱۹۵	استغفار اور معمولات کی دائمیگی
۱۹۵	رات کو جب آنکھ کھلے استغفار کر لو.....
۱۹۶	ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے.....
۱۹۷	عشاء کے ساتھ تہجد پڑھنے کا ثبوت.....
۱۹۸	کچھ عبادت رات کی تاریکی میں.....

صفحہ نمبر	عنوان
۱۹۹	تہجد کا اصل وقت.....
=	وتر کے بعد کی دو رکعتوں کی اہمیت.....
۲۰۰	یہ رکعات بھی تہجد کے قائم مقام ہیں.....
=	عشاء کے بعد معمولات پورے کر لو.....
۲۰۱	معمولات پورے نہ ہو سکنے پر توبہ استغفار.....
=	معمول میں کمی کر دو، نافرمان مت کرو.....
۲۰۲	باقی کی تلافی استغفار سے کر لو.....
=	عبادت کے بعد تحمید و استغفار.....
۲۰۳	شیطان کے ایک داؤ کا علاج ”استغفار“.....
۲۰۴	دوسرے داؤ کا علاج ”تحمید“.....
۲۰۵	ہر نماز کے بعد تین مرتبہ استغفار.....
=	ایک دن میں ستر مرتبہ استغفار.....
۲۰۶	استغفار سے مدارج کی ترقی.....
=	ایسی تیسی میرے گناہوں کی.....
۲۰۷	شکستگی پسندیدہ چیز ہے.....
=	شیطان کا تہجد کے لئے اٹھانے کا واقعہ.....
۲۰۸	استغفار کار آمد چیز ہے.....

صفحہ نمبر	عنوان
۲۰۹	استغفار شیطان کے زہر کا تریاق.....
۲۱۰	جنوبی افریقہ میں ایک زہریلی جھاڑی.....
۲۱۰	توبہ کرنے والا گناہوں سے پاک.....
۲۱۱	سحری کے وقت استغفار کیوں؟.....
۲۱۲	خلاصہ.....
۲۱۳	مجلس نمبر ۳۳
۲۱۴	اوراد و وظائف سے مقصود ”عبدیت“ ہے
۲۱۵	”ورد“ کا مقصود اصلی ”عبدیت“ ہے.....
۲۱۶	رخصتوں پر عمل کرنا بھی پسندیدہ ہے.....
۲۱۷	رخصت پر عمل کرنے سے دل تنگ نہ ہو.....
۲۱۸	یہ روزہ کس کے لئے رکھا رہے ہو؟.....
۲۱۸	سفر میں روزہ رکھنا.....
۲۱۹	جیسا وہ کہیں وہ کرو.....
۲۲۰	حضور ﷺ آسانی اختیار فرماتے.....
۲۲۰	توڑنا ہے حسن کا پندار کیا؟.....

صفحہ نمبر	عنوان
۲۲۱	ایک بزرگ کا قصہ
۲۲۲	پیغمبران عمل
۲۲۳	بندگی کا تقاضہ
۲۲۴	انسان کا اعلیٰ ترین مقام
۲۲۴	اللہ تعالیٰ شکستہ دلوں کے ساتھ ہوتے ہیں
۲۲۵	اب اور کچھ بتائیں گے اس کو بگاڑ کے
۲۲۹	مجلس نمبر ۴۴
۲۳۱	ذکر میں دل نہ لگنے کے اسباب
۲۳۱	ذکر میں فائدہ "تصد" پر موقوف ہے
۲۳۲	لذت کے حصول کیلئے روزہ رکھنا
۲۳۳	زبان اور دل دونوں سے ذکر کرے
۲۳۵	ذکر میں دل نہ لگنے کے اسباب
۲۳۶	کام پہلے کر لو اور ذکر بعد میں کرو
۲۳۶	حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل
۲۳۷	نماز فارغ ہونے کی چیز نہیں

صفحہ نمبر	عنوان
۲۳۹	نماز حسن لعینہ ہے.....
"	شیخ حسن مشاط کا معمول.....
۲۴۰	اس معمول میں دو فائدے.....
"	نمازی کا انتظار کس جگہ کیا جائے؟.....
۲۴۱	پہلے دوسرے کام پھر نماز.....
۲۴۲	غیر اختیاری الجھن کی صورت میں ذکر نہ چھوڑو.....
"	طبیعت گھبرانے پر ذکر جلدی ختم کر دو.....
۲۴۳	اکتاہٹ ہونے سے پہلے ذکر موقوف کر دو.....
۲۴۵	مجلس نمبر ۲۵
"	دین احکامات ماننے کا نام ہے
۲۴۷	اذان کے وقت ذکر موقوف کر دینا چاہئے.....
۲۴۸	تقاضہ وقت پر عمل کرنے کا نام دین ہے.....
۲۴۹	تصنیف کے وقت ملاقات کرنے پر طبیعت میں گرانی.....
"	یہ تصنیف کس لئے کر رہے ہو؟.....
۲۵۱	وہ بھی اللہ کیلئے یہ بھی اللہ کیلئے.....

صفحہ نمبر	عنوان
۲۵۱	اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں.....
۲۵۲	مفتی بننے کا شوق.....
=	تبلیغ کرنے کا شوق.....
۲۵۳	ایسے وقت میں جماعت کی نماز چھوڑ دو.....
۲۵۴	حضرت اولیں قرنی رحمۃ اللہ علیہ.....
=	شیخ کی ضرورت ایسے موقع پر ہوتی ہے.....
۲۵۵	میں ان کاموں کا مخالف نہیں ہوں.....
۲۵۶	سہاگن وہ جسے پیا چاہے.....
۲۵۷	اس ذات کی پسندیدگی کو دیکھو.....
=	ذکر کو روک کر اذان کا جواب دو.....
۲۵۸	سب کچھ ہمارے حکم میں ہے.....
=	اصل مقصود اطاعت خداوندی ہے.....
۲۶۰	افطار میں جلدی کیوں؟.....
=	سحری میں تاخیر افضل کیوں؟.....
۲۶۱	”نوکر“ اور ”غلام“ کی تعریف.....
=	”بندہ“ کی تعریف.....
۲۶۲	خلاصہ.....

مجلس نمبر ۴۶

۲۶۳

درس و تدریس کے ساتھ اصلاح اعمال

۲۶۵

کثرت ذکر اور اصلاح اعمال رکن طریق ہیں

۲۶۶

کسی شیخ کی طرف رجوع کرنے کا مقصد

۲۶۷

زمانہ طالب علمی میں کثرت ذکر مناسب نہیں

۵

مشغولی علم سے کثرت ذکر کا مقصود حاصل ہے

۲۶۸

طالب علم کو کچھ ذکر ضرور کرنا چاہئے

۲۶۹

”علم“ کو مقصود زندگی بنانے والوں کی حالت

۵

کس عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے؟

۲۷۰

حدیث میں عالم اور عابد سے کون مراد ہیں؟

۲۷۱

”علم“ عمل اور طاعت کے بغیر بیکار ہے

۲۷۲

آپ کو ”قلت“ سے مقصود حاصل ہے

۲۷۳

”قطبی“ پڑھ کر ایصال ثواب

۲۷۴

زمانہ طالب علمی میں اصلاح اعمال

۵

ابتداء ”قصد السبیل“ کا مطالعہ

صفحہ نمبر	عنوان
۲۷۵	”مکاتبت“ کے ذریعہ اصلاح کا آغاز
۲۷۶	”تربیت السالک“ مکاتبت کا نمونہ ہے
۲۷۹	مجلس نمبر ۴
۲۸۱	ایک بیمار کا خط
۲۸۲	صحت کی دعا عبدیت کی علامت ہے
۲۸۳	بیماری میں دعا کرنے کا ثبوت
۲۸۵	ایک بزرگ کا واقعہ
۲۸۶	اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں
۲۸۷	بھوک کی وجہ سے ایک بزرگ کا رونا
۲۸۸	بیماری میں ہائے ہائے کرنا
۲۸۹	حضرت مفتی صاحب کا تکالیف پر صبر
۲۹۰	رحم کی دعا پر استغفار
۲۹۱	دعا میں شکوہ کا رنگ نہ ہو
۲۹۲	حضور ﷺ کی شان میں توصیف کے کلمات

صفحہ نمبر	عنوان
۲۹۱	معراج کے تذکرے میں ”عبید“ کا لفظ لانا.....
۲۹۲	یہ بے ادبی کے الفاظ ہیں.....
۲۹۲	یہ تکلیف تمہیں کس بلند مقام پر پہنچا رہی ہے.....
۲۹۳	ایک مسلمان اور ایک یہودی کا قصہ.....
۲۹۳	فرشتوں نے اپنا اپنا کام کر لیا.....
۲۹۵	یا اللہ! بات سمجھ میں نہیں آئی.....
۲۹۵	کافروں کے ساتھ دوسرا معاملہ ہے.....
۲۹۶	مسلمانوں کے ساتھ دوسرا معاملہ ہے.....
۲۹۷	حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نوازنے کا انداز.....
۲۹۸	تکالیف پر رضامندی، درجات کی بلندی کا ذریعہ.....
۲۹۹	موت کی دعا کے بجائے یہ دعا کریں.....
۳۰۰	تین سبق.....
۳۰۱	اپنی طرف سے تجویز مت کرو.....
۳۰۱	حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ.....
۳۰۲	ہمارا حکم اور ہمارا فیصلہ ہی سب کچھ ہے.....
۳۰۳	بیماری میں سابقہ عمل کا ثواب ملتا رہتا ہے.....
۳۰۵	بیماری کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں.....

صفحہ نمبر	عنوان
۳۰۵	حضرت تھانویؒ اور فہم دین
۳۰۶	مجلس نمبر ۴۸
۳۰۷	دنیا و آخرت دونوں اللہ سے مانگیں
۳۰۸	دنیاوی مقاصد کی دعا نہ مانگنا بے ادبی ہے
۳۰۹	ایک بزرگ کا سبق آموز واقعہ
۳۱۰	انسان کو تو پیشاب کی بھی حاجت ہے
۳۱۱	ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے
۳۱۲	جامع دعا کر لینا کافی، نہ مانگنا چاہئے
۳۱۳	علیحدہ علیحدہ دعائیں کرنے میں خشوع زیادہ ہوتا ہے
۳۱۴	حضور ﷺ نے ہر چیز علیحدہ علیحدہ بھی مانگی
۳۱۵	دعا کی تعداد میں اضافہ
۳۱۶	ہر ہر دعا مستقل عمل صالح ہے
۳۱۷	حضور ﷺ کا لگا تار دعائیں کرنا
۳۱۸	صبح کے وقت کی دعائیں
۳۱۹	رمضان کی عبادت پر شکر ادا کریں

صفحہ نمبر	عنوان
۳۱۹	اپنی کوتاہیوں پر استغفار کریں.....
۰	ہم بڑے خوش قسمت ہیں.....
۳۲۰	رمضان کے بعد کی زندگی بھی درست رکھیں.....

مجلس نمبر ۳۳

ذکر اللہ کی اہمیت

جلس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی



مطبوعات ترتیب
محمد عبید اللہ سکن

مبین اسلامک پبلیشرز

۱/۱۸۸ ایلیٹ کراچی

مقام خطاب : جامع مسجد دارالعلوم کراچی

وقت خطاب : بعد نماز ظہر۔ رمضان المبارک

اصلاحی مجالس : جلد نمبر ۳

مجلس نمبر : ۳۳

صفحات : ۱۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

مجلس نمبر ۳۳

ذکر اللہ کی اہمیت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ -

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ - وَعَلٰی

آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ -

أَمَّا بَعْدُ!

انفاس عیسیٰ کا معمول

ہر سال رمضان المبارک میں ظہر کی نماز کے بعد حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”انفاس عیسیٰ“ سے ملفوظات سنانے کا معمول ہے، لیکن اس سال اسفار کی وجہ سے یہ سلسلہ اب

تک شروع نہ ہو سکا، اور اب صرف چند روز باقی ہیں، اس لئے خیال آیا کہ اس کتاب کا کوئی ایک حصہ لے لیا جائے اور اس پر کچھ بیان ہو جائے۔ میرا ذہن اس طرف گیا کہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ عشرہ پورے رمضان کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اللہ جل جلالہ نے اس عشرے میں رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ہر طرف سے رحمتوں کی بارش برس رہی ہے، طاق راتوں میں شب قدر ہونے کا احتمال ہے، اور حدیث شریف میں اس عشرے کو ”عتق من النيران“ قرار دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس عشرے میں بندوں کو جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔

رمضان کے آخری عشرہ میں آپ ﷺ کی کیفیت

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوتا کہ:

شَدَّ حَبِيرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيَّقَصَ أَهْلَهُ

اس کے لفظی معنی یہ ہیں کہ آپ اپنی ازار باندھ لیتے تھے، لیکن اس سے ایک محاورہ کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ہے کسی کام کے لئے کمر کس لینا، یعنی آپ کمر کس لیتے تھے، اور عبادت میں زیادہ سے زیادہ محنت اور مشقت اٹھانے کے لئے تیار ہو جاتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ اور اپنی رات کو زندہ رکھتے، یعنی رات کے وقت جاگتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جاگ کر رات گزارتے۔ وَأَيَّقَصَ أَهْلَهُ اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لئے بیدار کرتے۔

عام دنوں میں تہجد کے وقت کیفیت

عام دنوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب رات کو تہجد کے لئے بیدار ہوتے تو اس بات کا اہتمام فرماتے کہ گھر والوں کی نیند میں خلل نہ آئے، چنانچہ حدیث شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ:

قام رویداً وفتح الباب رویداً

جب آپ بستر سے کھڑے ہوتے تو آہستہ سے کھڑے ہوتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ کھل جائے، اور جب دروازہ کھولتے تو بہت آہستہ سے کھولتے تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اپنے گھر والوں کی نیند کا اتنا احساس تھا، لیکن جب رمضان المبارک کا عشرہ اخیرہ داخل ہوتا تو اپنے گھر والوں کو اہتمام سے بیدار فرماتے کہ یہ عبادت کا وقت ہے، اس وقت میں اللہ کی عبادت کرو۔ بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وَكثُرَ صَلَاتُهُ لِعِنِّي ان ایام میں آپ ﷺ نماز کی کثرت فرماتے۔ اور عبادت کا یہ اہتمام صرف طاق راتوں میں نہیں ہوتا تھا بلکہ پورے عشرے کی تمام راتوں میں یہ اہتمام فرماتے۔

آخری عشرہ کس طرح گزارا جائے؟

بہر حال! یہ عشرہ اخیرہ اسی کام کے لئے ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارا جائے، نماز بھی ذکر کا ایک شعبہ ہے، عبادات بھی ذکر کا شعبہ

ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ عشرہ اخیرہ اللہ جل شانہ کی یاد میں گزرے اور ذکر قلبی اور ذکر لسانی میں یہ وقت گزرے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آخری عشرہ کی راتوں کو جلسوں میں، تقریروں میں اور تقریبات اور دعوتوں میں ضائع کرنا بڑی خطرناک بات ہے، یہ راتیں جلسے اور تقریروں کی نہیں ہیں، بلکہ یہ محض عمل کرنے کی راتیں ہیں، بس انسان ہو اور گوشہ تنہائی ہو، اور اپنے مالک کے ساتھ رابطہ قائم ہو، وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو، اس طریقے سے اس عشرے کو گزارو، اور ذکر میں گزارو، زبان سے ذکر ہو، دل سے ذکر ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر ہو، بلکہ بازار میں، دفتر میں، گھر کے کام کاج میں مصروف ہو، تب بھی زبان پر اور دل میں اللہ کا ذکر ہو اور یہ کیفیت ہو کہ:

دل پیاد دست بکار

یعنی ہاتھ تو کام کاج میں لگا ہو اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔

ایمان والوں سے خطاب

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا۔

(سورۃ الاحزاب، آیت ۴۱)

اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔

بعض طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر کرنا تو صوفیوں کا کام ہے، مولویوں کو اور علماء کو ذکر سے کیا کام؟ علماء کرام کا کام تو یہ ہے کہ وہ وعظ کریں، تبلیغ کریں، تدریس کریں، سبق پڑھیں پڑھائیں، مطالعہ کریں، تکرار کریں وغیرہ، ذکر سے مولوی کا کیا کام؟ ذکر کرنا تو صوفیوں کا کام ہے، لہذا جب خانقاہ میں جائیں گے تو وہاں ذکر کریں گے۔ ارے بھائی! یہ آیت جو میں نے پڑھی اس میں تو تمام ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، اب یہ بتائیں کہ مولوی ایمان والوں میں داخل ہے یا نہیں؟ **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا** کے عموم کے اندر سب داخل ہیں، لہذا یہ سمجھنا کہ ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو کتاب پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تکرار کریں گے، ذکر نہیں کریں گے۔ یاد رکھئے! یہ بڑی خطرناک بات ہے۔

ذکر میں کثرت مطلوب ہے

اور پھر اس آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک دو مرتبہ ذکر کر لینا کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی رت لگاؤ، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے ہر وقت تمہاری زبان پر ذکر جاری رہے۔ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! قیامت کے روز درجہ کے اعتبار سے افضل درجہ کس بندے کا ہوگا؟ آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ:

الذاكرون الله كثيراً والذاكرات۔

(ترمذی۔ کتاب الدعاء۔ باب نمبر ۵)

جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور
عورتیں ہیں۔

دھیان کے بغیر ذکر کرنا

بعض لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ کیسا ذکر ہے کہ دل
و دماغ تو کہیں اور مشغول ہیں اور زبان سے ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ،
الحمد للہ، لا الہ الا اللہ کی تسبیحات پڑھ رہا ہے، لیکن دھیان کہیں، فکر کہیں،
دل کہیں، دماغ کہیں، تو ایسے ذکر سے کیا فائدہ؟ یاد رکھئے! یہ شیطان کا
دھوکہ ہے، ارے اگر صرف زبان کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہو رہی ہے،
چاہے دل دماغ کہیں اور مشغول ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بھی
بڑی دولت ہے۔ ارے یہ دولت کیا کم ہے کہ جسم کے تمام اعضاء میں سے
ایک عضو تو ان کی یاد میں مشغول ہے۔

زبان پر ذکر ہو دل میں خیالات ہوں

چنانچہ اس پر لوگوں کے درمیان ایک شعر مشہور ہے کہ:

بر زبان تسبیح و در دل کاؤ خر

اس چیس تسبیح کے دارد اثر

یعنی زبان پر تسبیح جاری ہو اور دل میں گائے اور گدھے کا خیال آ رہا ہو، ایسی تسبیح کا کیا اثر اور کیا فائدہ؟ کسی شاعر نے یہ شعر کہ دیا، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ شعر کہا ہے وہ حقیقت شناس نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ :

بزبان تسبیح و در دل گاؤ خر

ایں چنین تسبیح ہم دارد اثر

یعنی اگر زبان پر تسبیح جاری ہے، اور دل میں گائے اور گدھے کا خیال آ رہا ہے، اللہ کے فضل سے ایسی تسبیح بھی اپنا اثر رکھتی ہے۔ زبان کا ذکر اس راہ کی پہلی سیڑھی ہے، اگر زبان اللہ کے ذکر سے تر نہیں ہوگی تو پھر دل کبھی اللہ کے ذکر سے آباد نہیں ہوگا۔ جو شخص اس پہلی سیڑھی کو قطع نہیں کرے گا، اس کے دل میں اللہ کی یاد کیسے سمائے گی؟ اس لئے زبان سے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ استوار کرنے کا پہلا زینہ ہے، اگر زبان سے ذکر نہیں ہے تو گویا پہلی سیڑھی ہی موجود نہیں، اس لئے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ زبان سے ذکر کا کیا فائدہ جب دل ہی متوجہ نہیں ہے۔ بلکہ زبان سے ذکر کرتے رہو چاہے دل لگے یا نہ لگے، جمعیت خاطر پیدا ہو یا نہ ہو، لیکن تم ذکر کرتے رہو، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کے نام کی رٹ لگاؤ، رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعہ دل کو بھی متوجہ فرمادیں گے۔ اگر فرض کریں کہ ساری عمر دل اس طرف متوجہ نہیں ہوا، تب بھی زبان سے ذکر بھی فائدے سے خالی نہیں۔

ذکر اللہ ایک توانائی ہے

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ذکر ایک ازجی اور توانائی ہے، لہذا صبح اٹھنے کے بعد ناشتہ کرنے سے پہلے یہ ازجی اور توانائی حاصل کر لو، اس لئے کہ اللہ کا ذکر دلوں میں توانائی پیدا کرتا ہے، ارادوں میں توانائی پیدا کرتا ہے، ہمت میں طاقت عطا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر شیطان اور نفس سے مقابلے کے لئے ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا نفس و شیطان کو شکست دینے میں ذکر کو بڑا دخل ہے، پھر یہ ذکر کرنے والا شیطان سے مغلوب نہیں ہوتا، اور اسی زبانی ذکر ہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔

اللہ کے ذکر نے گناہ سے روک دیا

جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گناہ کا موقع آیا اور تمام اسباب جمع ہو گئے، تو اس وقت اس گناہ سے ذکر نے روک دیا، اس لئے کہ جب زلیخا نے کہا ”ہینت لک“ تو جواب میں انہوں نے فرمایا ”معاذ اللہ“ اللہ کی پناہ۔ اس موقع پر اللہ کی پناہ کے احساس نے یہ طاقت دی اور اتنے دلربا ماحول میں جس میں انسان کے پھسل جانے کا تئانوے فیصد احتمال موجود تھا، اس اللہ کے ذکر نے ان کو گناہ سے روک دیا۔

ذکر رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا

اس کے بعد اگلا جملہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا:

إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ

حضرات مفسرین نے اس جملہ کی دو تفسیریں کی ہیں۔ بعض حضرات نے تو فرمایا کہ ”رَبِّي“ سے مراد عزیزِ مصر ہیں، زینچا جس کی بیوی تھی، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ”رَبِّي“ سے مراد ”اللہ جل شانہ“ ہیں، اور اشارہ اس جملے سے اس طرف فرمایا کہ اگرچہ تم نے دروازے بند کر دیے ہیں اور دروازوں پر تالے ڈال دیے ہیں اس خیال سے کہ اس عمل کا کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن میرا ایک پروردگار ہے جو مجھے اس حالت میں بھی دیکھ رہا ہے، جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے۔ تو ”إِنَّهُ رَبِّي“ کا خیال ذکر کی برکت سے آرہا ہے، وہ ذکر جو ان کی رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان کے دل و دماغ میں پیوست ہو چکی تھی، اس کے نتیجے میں وہ اس گناہ سے بچ گئے۔ بہر حال! یہ ذکر ایک توانائی اور انرجی ہے جس کو صبح کے وقت کاروبار زندگی میں داخل ہونے سے پہلے حاصل کر لینا چاہئے۔

ذکر مسنون کیلئے اجازت کی ضرورت نہیں

عام طریقہ تو یہ ہے کہ جب انسان کسی شیخ کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیخ اس کو کچھ ذکر اور تسبیحات بتاتا ہے کہ صبح کے وقت یہ ذکر کر لیا کرو

اور شام کے وقت یہ ذکر کر لیا کرو۔ لیکن بعض تسبیحات وہ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتادی ہیں، ان تسبیحات کو پڑھنے کے لئے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، مثلاً روزانہ ایک تسبیح ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ ایک تسبیح ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ“ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“ ایک تسبیح ”استغفار“ کی اور ایک تسبیح ”رود شریف“ کی۔ یہ چار تسبیحات ہر انسان روزانہ پڑھ سکتا ہے، لہذا جن حضرات کے معمولات میں یہ تسبیحات شامل نہیں ہیں، وہ اپنے معمولات میں ان کو شامل کر لیں۔

بہر حال! اس کتاب ”انفاس عیسیٰ“ میں حضرت والا نے ”ذکر“ کے بارے میں چند ملفوظات ذکر فرمائے ہیں، اس لئے خیال آیا کہ اس رمضان میں ”ذکر“ کے بارے میں ملفوظات پڑھ کر اس کی کچھ تشریح عرض کر دی جائے۔

ذکر میں مشقت خود نافع ہے

ایک شخص نے حضرت والا کو خط میں اپنا حال لکھا کہ:
ذکر طبیعت پر بہت بار معلوم ہوتا ہے، جب کرنے
بیٹھے جی گھبرا اٹھتا ہے۔

جواب میں حضرت والا نے لکھا کہ:

”بار“ ایک مشقت ہے، مشقت میں اگر جی نہ لگے تو سمجھ

لو کہ خود مشقت بھی نفع میں جی لگنے سے کم نہیں، جس طرح سے بھی ہو حتیٰ الوسع پورا کر لیا کیجئے، شدہ شدہ سب دشواری مبدل آسانی ہو جائے گی۔

(انفاس عیسیٰ، ص ۶۳)

جب آدمی ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو پہلے مرحلے میں اس کا دل بہت الجھتا ہے اور اس کو مشقت معلوم ہوتی ہے، اور جب ذکر کرنے بیٹھتا ہے تو دل گھبرانے لگتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب ذکر کرنے بیٹھے تو دل گھبرا گیا اور طبیعت اس میں نہیں چلی اور دل نہیں لگا، تو وہ لوگ ہمت ہار بیٹھتے ہیں اور ذکر چھوڑ بیٹھتے ہیں، ایسے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔

ذکر میں زبردستی لگے رہو

ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ جب ذکر کرنے بیٹھے تو اب دل لگے یا نہ لگے، دل چاہے یا نہ چاہے، دل گھبرائے یا وحشت ہو، لیکن پھر بھی ذکر میں لگا رہے، اور دل سے کہدے کہ چاہے تو گھبرائے یا پریشان ہو، مجھے تو یہ کام کرنا ہے۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اپنے نفس سے یہ کہدیا کرو کہ

آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں برباد ہوں

اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے

ایک مرتبہ اس دل سے یہ کہدو کہ تو اس سے بھاگ رہا ہے اور گھبرا

رہا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو یہ کام کروں گا۔ جس دن آدمی نے یہ عزم کر لیا تو پھر انشاء اللہ چند ہی روز میں یہ گھبراہٹ اور پریشانی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر اس گھبراہٹ کی وجہ سے بھاگ کھڑا ہو اور ذکر چھوڑ بیٹھا تو پھر دوبارہ ذکر کی طرف لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔

دل گھبرانے کا کوئی علاج نہیں

لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت! اس کا کوئی علاج بتائیے کہ ذکر میں دل گھبرائے نہیں اور دل ذکر میں لگ جایا کرے۔ یاد رکھئے! اس کا کوئی علاج نہیں، کوئی ایسی گولی اور سفوف نہیں ہے اور کوئی ایسا معجون نہیں ہے کہ وہ اگر کھلا دیا جائے تو اس کے نتیجے میں ذکر میں دل لگ جایا کرے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ دل لگے یا نہ لگے، لیکن اپنی ہمت کو استعمال کر کے انسان لگا رہے۔ دیکھئے! اس ملفوظ میں حضرت والا نے ذکر میں دل نہ لگنے کے بارے میں اور ذکر میں بار محسوس ہونے کے بارے میں کیا جواب ارشاد فرمایا:

یہ مشقت اور بار فائدے سے خالی نہیں

فرمایا کہ ”بار“ ایک مشقت ہے، یعنی طبیعت پر ذکر کرنے سے جو بار ہوتا ہے وہ ایک مشقت ہے، اور مشقت میں اگر جی نہ لگے تو سمجھ لو کہ خود مشقت بھی نفع میں جی لگنے سے کم نہیں، یعنی اگر ذکر کرنے میں مشقت ہو رہی ہے اور اس میں جی نہیں لگ رہا ہے تو اس دل نہ لگنے کی صورت میں یہ

سوچو کہ یہ جو مشقت ہو رہی ہے، یہ بھی فائدہ دینے میں دل لگنے سے کم نہیں۔ کیونکہ اگر ذکر میں دل لگتا اور خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ دل لگا کر ذکر کرتے اور اس سے جو فائدہ حاصل ہوتا، اس مشقت کا فائدہ بھی اس سے کم نہیں۔

ایسے ذکر میں نورانیت زیادہ ہوتی ہے

بلکہ حضرت والا نے بعض جگہ لکھا ہے کہ اس مشقت والے ذکر کا فائدہ دل لگا کر ذکر کرنے کے فائدے سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جس شخص کو ذکر میں لطف اور مزہ آرہا ہے اور دل لگ رہا ہے، اس کے ذکر کے اندر تو یہ احتمال موجود ہے کہ شاید یہ حظ نفس کے لئے ذکر کر رہا ہو اور مزہ اور لطف کی خاطر ذکر کر رہا ہو، بخلاف اس شخص کے جس کو ذکر کرنے میں مشقت ہو رہی ہے، اس کو ذکر کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے علاوہ اور کچھ مقصود نہیں، اس لئے ہو سکتا ہے کہ مشقت کے ساتھ ذکر کرنے والا نفع اور ثواب میں دوسروں سے آگے بڑھ جائے۔ اس لئے کبھی یہ نہ سوچو کہ مشقت کے ساتھ ذکر کرنے میں کیا فائدہ؟ ارے اس میں بھی بڑا فائدہ ہے، یہ جو تم اس حال میں ذکر کر رہے ہو کہ تمہارا دل کہیں ہے اور دماغ کہیں ہے اور ذکر میں دل نہیں لگ رہا ہے پھر بھی زبردستی دل لگا رہے ہو، یہ ذکر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بعض اوقات ایسے ذکر میں نورانیت اور روحانیت کیف اور مزے والے ذکر سے زیادہ ہوتی ہے۔

روحانیت اور نورانیت کی حقیقت

ایک مرتبہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں تفصیل سے بیان فرمایا کہ یہ روحانیت اور نورانیت کیا چیز ہے؟ چنانچہ فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا خواب نظر آجائے، اور کوئی کشف ہو جائے، اور عبادات میں مزہ آنے لگے تو یہ نورانیت اور روحانیت کی دلیل ہے۔ حالانکہ ان چیزوں کا نورانیت اور روحانیت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ نورانیت اللہ کے حکم کی اتباع میں ہے، جس دن اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، اس دن نورانیت حاصل ہو گئی، چاہے ساری عمر نماز پڑھنے میں مزہ نہ آیا ہو، لیکن اس شخص کو نورانیت مکمل حاصل ہے۔

ان کی کوئی حقیقت نہیں

ہمارے یہاں ایک صاحب جو شیخ طریقت کہلاتے ہیں، جن کے مریدوں کی تعداد بھی بی شمار بتائی جاتی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ: ”جو شیخ اپنے مرید کو مسجد حرام میں نماز نہ پڑھوا سکے وہ شیخ بننے کے لائق نہیں“ یعنی وہ شیخ مرید کے سامنے ”مسجد حرام“ منکشف کرائے اور اس مرید کو اس میں نماز پڑھوا دے، جو پیر ایسا نہ کر سکے وہ پیر بننے کے لائق نہیں۔ چنانچہ ان باتوں کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ مراقبات، یہ مکاشفات وغیرہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو

تقرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے! ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، اگر کسی کو یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ مگر یہ بہت نازک نعمت ہے، بسا اوقات یہ ایک امتحان بھی ہوتی ہے، اس کے حاصل ہونے کے بعد مگر اسی کے راستے پر پڑ جانے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو شیطان نے انہی چیزوں سے بہکا دیا۔ اس لئے کبھی ان کے حاصل کرنے کی فکر میں نہ پڑو، یہ مقصود چیزوں میں سے نہیں، زیادہ سے زیادہ محمود ہے، طبیعت کی پسندیدہ کیفیت ہے۔

اللہ سے رابطہ استوار کر لو

اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کر لو، کیا اللہ تعالیٰ وہاں حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یا بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ارے اللہ تعالیٰ تو جس طرح حرم میں موجود ہیں، اسی طرح یہاں بھی موجود ہیں، جس دن تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کر لیا، بس اسی دن تمہیں تمہارا حرم حاصل ہو گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی

تم شب قدر تلاش کرتے ہو، ارے ہر رات شب قدر ہے اگر تم اس کی قدر پہچانو، جس رات تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کر لیا، وہ رات تمہاری شب قدر ہو گئی۔

تمہیں یہاں پر ”حرم“ حاصل ہو جائے گا

اس لئے یہ سمجھنا کہ اگر ہم حرم نہ گئے اور حرم میں نماز نہ پڑھی تو ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا، یہ بات ٹھیک نہیں۔ ارے بھائی! اگر اللہ تعالیٰ حرم لے جائے تو یہ اس کا کرم اور احسان ہے، اور اگر تم وہاں نہ جا سکتے، اس لئے کہ قانونی پیچیدگیاں ہیں یا اخراجات کا انتظام نہیں ہے یا اس کے اندر سفر کی طاقت نہیں ہے، تو کیا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں محروم فرما دیں گے؟ ارے وہ جذبہ جو تمہیں حرم لے کر جا رہا تھا، اگر اس جذبے کو صدق و اخلاص سے یہاں بیٹھ کر استعمال کرو تو تمہیں یہاں پر ہی حرم حاصل ہو جائے گا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کسی صاحب ایمان کو محروم نہیں فرماتے۔

ہر حالت میں ذکر میں مشغول رہو

خوب سمجھ لیجئے! ان کشف و کرامات کا براہ راست دیداری سے کوئی تعلق نہیں، حق تعالیٰ کا قرب اس پر موقوف نہیں، اصل دین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو، اسی کی تعمیل میں اس کا ذکر ہو، اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور تعلق ہو، اس تعلق کو استوار کرنے کی فکر ہو۔ خواہ ذکر کرنے میں مشقت ہو، طبیعت پر بار ہو، دل نہ لگے، پھر بھی بیٹھ جاؤ اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اس اطاعت کے نتیجے میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسی نورانیت اور برکت عطا فرماتے ہیں کہ رفتہ رفتہ یہ ذکر و اذکار بھی سہولت سے پورے ہونے

لگیں گے اور اس کا اصل فائدہ رجوع الی اللہ اور تعلق مع اللہ حاصل ہوگا۔
 اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی اس کی
 توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is arranged in approximately 30 horizontal lines across the page.]



مجلس نمبر ۳۴

ذکر کے مختلف طریقے

جلس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی



منیظ و ترتیب
مؤسسہ المدین

میں اسلامک پبلشرز

۱/۱۸۸۔ لیاقت آباد کراچی ۱۱

مقام خطاب : جامع مسجد دارالعلوم کراچی

وقت خطاب : بعد نماز ظہر۔ رمضان المبارک

اصلاحی مجالس : جلد نمبر ۳

مجلس نمبر : ۳۳

صفحات : ۲۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

مجلس نمبر ۳۳

ذکر کے مختلف طریقے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ -

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ -

وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ -

اَمَّا بَعْدُ

مشقت کے باوجود ذکر میں لگا رہے

جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ جب انسان ابتداءً ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو طبیعت پر مشقت ہوتی ہے اور بڑھتا ہے۔ یہ کیفیت صرف ذکر کے

ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر نئے کام کو شروع کرنے کے بعد ابتداء اس کام کو کرتے ہوئے مشقت معلوم ہوتی ہے، اسی طرح ذکر اللہ کے آغاز میں بھی جب انسان اپنے آپ کو ذکر اللہ کا عادی بنانا چاہتا ہے تو بعض اوقات ذکر کرنے سے دل الجھتا ہے اور طبیعت پر بار محسوس ہوتا ہے۔

لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ اس مشقت کو برداشت کیا جائے، اس بار کو اٹھایا جائے، اور گھبرا کر ذکر کو نہ چھوڑا جائے، بلکہ دل لگے یا نہ لگے، طبیعت الجھے یا سلجھے، ہر حالت میں ذکر کے اندر انسان مشغول رہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ دل لگنے لگے گا۔

نماز پڑھنے میں ابتداء مشقت ہوتی ہے

دیکھئے! بچپن میں جب ماں باپ نے کہا تھا کہ نماز پڑھو، اور ان کے کہنے پر نماز شروع کر دی تھی، کیا اس وقت نماز میں تمہارا دل لگتا تھا؟ نہیں! اس وقت تمہارا دل نہیں لگتا تھا، بلکہ دل بھاگتا تھا اور طبیعت نماز پڑھنے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ جب ماں باپ نماز پڑھنے پر اصرار کرتے تو دل میں یہ خیال آتا کہ یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، تو اس وقت نماز پڑھنا مشقت معلوم ہوتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ وہ مشقت جزو زندگی بن گئی، اور اب یہ حالت ہو گئی کہ اگر کوئی شخص کسی نمازی سے یہ کہے کہ تو ایک لاکھ روپے لے لے اور ایک وقت کی نماز چھوڑ دے، تو وہ نمازی ایک نماز بھی چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگا، اب اسے نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا۔

ذکر جزو زندگی بن جاتا ہے

اسی طرح ”ذکر“ کا حال ہے کہ ابتداءً ذکر میں مشقت ہوتی ہے، وہ بوجہ معلوم ہوتا ہے، لیکن جب رفتہ رفتہ وہ ذکر معمول کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ ذکر جزو زندگی بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر کو زندگی کا ایسا حصہ بنا دیتے ہیں کہ اس کے بغیر چین نہیں آتا۔

حافظ ابن حجر اور ذکر اللہ

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر محدث اور عالم تھے، اور علم و فضل کا بہت اونچا مقام رکھتے تھے اور صحیح بخاری کی شرح ”فتح الباری“ کے مصنف تھے، ان کا یہ حال تھا کہ جس وقت وہ فتح الباری لکھتے اور لکھنے کے دوران قلم پر قلم لگانے کی ضرورت پیش آتی۔ چونکہ اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، لکھتے لکھتے جب ان کی نوک خراب ہو جاتی تو چاقو سے اس پر قلم لگانا پڑتا تھا۔ تو جب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو کتاب لکھنے کے دوران قلم پر قلم لگانے کی ضرورت پیش آتی تو جتنا وقت قلم پر قلم لگانے میں گزرتا، اتنا وقت بھی خالی گزارنا گوارا نہیں تھا، اس لئے اس وقت کو ذکر اللہ میں گزارتے۔ لہذا جب ذکر انسان کا جزو زندگی بن جاتا ہے تو اس کے بغیر انسان کو چین نہیں آتا۔

ذکر کا ایک طریقہ ”ذکر جہری“

بعض حضرات صوفیاء نے اس مبتدی کے لئے جس کی طبیعت ابھی ذکر اللہ سے مشقت محسوس کر رہی ہے، ذکر کے کچھ خاص طریقے بیان فرمائے ہیں کہ اس طرح ذکر کیا کرو، اس طرح ذکر کرنے سے ذکر میں دل لگے گا اور گھبراہٹ نہیں ہوگی، ورنہ اندیشہ یہ ہے کہ گھبراہٹ کے نتیجے میں وہ ذکر کرنا چھوڑ دے گا۔

ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ”ذکر جہری“ ہے، کیونکہ اگر وہ اکیلا چپکے چپکے ذکر کرے گا تو اس سے دل اٹھے گا اور دل گھبرائے گا، اس لئے اس سے کہا کہ تو ذرا بلند آواز سے ذکر کر لے اور تھوڑا سا لحن بھی اس میں شامل کر لے، اس کے نتیجے میں ذکر کے اندر اس کا دل لگ جائے گا۔ مثلاً اگر آہستہ آواز میں ”لا الہ الا اللہ“ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل نہیں لگتا، لیکن جب بلند آواز سے اور لحن سے ذکر کرے گا تو اس کا دل لگ جائے گا۔ دل لگانے کی خاطر بزرگوں نے یہ تجویز کیا کہ ذکر جہری کرو اور لحن سے کرو۔

ذکر کا ایک طریقہ ”ضرب“ لگانا

کسی کو ”ضرب“ کا طریقہ بتا دیا کہ ذکر کرتے وقت ”ضرب“ لگاؤ۔ ضرب لگانے کا مطلب ہے مارنا، چوٹ لگانا، یعنی ذکر کرتے وقت کسی جگہ پر زور ڈالنا اور اس پر چوٹ مارنا۔ عملی طور پر اس کی بہت سی شکلیں اپنے

تجربات سے مفید سمجھ کر اہل تربیت نے اختیار کی ہیں، انہی میں ایک یہ ہے کہ جس وقت تم "لا اِلهَ" کہو، اس وقت گردن اور چہرہ کو دل کے قریب لے جاؤ، اور پھر گردن کو داہنی طرف سے پیچھے کی طرف کرو، اور اس وقت یہ تصور کرو کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزوں کی محبت ہے، اس محبت کو دل سے نکال کر پیچھے کی طرف پھینک رہا ہوں۔ اور پھر "الا اللہ" کہتے وقت گردن اور چہرے کو دوبارہ دل کے قریب لا کر جھٹکا دو، اور اس وقت یہ تصور کرو کہ میں اللہ کی محبت کو دل میں داخل کر رہا ہوں۔ یہ طریقہ بزرگوں نے اس لئے تجویز کیا کہ جب ذکر اس "ضرب" کے اندر مشغول ہوگا تو اس کا دل ذکر میں لگ جائے گا، اور جب بار بار اور روزانہ یہ تصور کر کے ذکر کرے گا اور اس طرح ضرب لگائے گا تو انشاء اللہ ایک وقت آئے گا کہ دل سے غیر اللہ کی محبت نکل جائے گی اور اللہ کی محبت دل میں داخل ہو جائے گی۔

”رگ کیماس“ پکڑ کر ذکر کرنا

بہر حال! بزرگوں اور مشائخ نے ذکر کے جو خاص طریقے تجویز کئے ہیں یہ بطور علاج کے ہیں، یہ طریقے نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور نہ ہی ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض حضرات نے اور طریقے بھی تجویز کیے ہیں، مثلاً بعض مشائخ نے فرمایا کہ جب ذکر کرنے بیٹھو تو چار زانو ہو کر بیٹھ جاؤ، اور پھر داہنے پاؤں کے انگوٹھے اور

ساتھ والی انگلی سے بائیں طرف کے گھٹنے کے اندر کی رگ جس کو ”رگ کیماں“ کہتے ہیں، اس کو پکڑ لو، اس رگ کو پکڑنے سے دل جمعی پیدا ہو جائے گی اور فضول خیالات اور وساوس نہیں آئیں گے۔ اب یہ بات تجربہ کی ہے اور تجربہ کی بنیاد پر یہ طریقہ بتا دیا۔

ذکر کا ایک طریقہ ”پاس انفاس“

اسی طرح ذکر کا ایک خاص طریقہ ”پاس انفاس“ کہلاتا ہے، اس طریقے میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سانس کی آمد و رفت میں ذکر اللہ کو اس طرح جذب کر لیا جاتا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر زبان سے جاری ہو جاتا ہے، سانس آ رہا ہے تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، سانس جا رہا ہے تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہر سانس کی رفتار کے ساتھ اللہ کا نام نکل رہا ہے۔ اس طریقے کی مشائخ کے یہاں مشق کرائی جاتی تھی جس کے نتیجے میں یہ چیز حاصل ہو جاتی تھی۔

ذکر کے وقت ہر چیز کے ذکر کرنے کا تصور

اسی طرح ”سلطان الاذکار“ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی ذکر کا ایک خاص طریقہ ہے، جس میں تمام لطائف کے ساتھ ذکر کی آواز نکلتی ہے واللہ اعلم۔ اسی طرح حضرات صوفیاء کرام نے ایک طریقہ یہ نکالا کہ جب ذکر کرنے بیٹھو تو یہ تصور کرو کہ یہ دیوار بھی میرے ساتھ ذکر کر رہی ہے،

یہ چھت بھی ذکر کر رہی ہے، یہ دروازہ بھی ذکر کر رہا ہے، یہ پنکھا بھی ذکر کر رہا ہے، یہ زمین بھی ذکر کر رہی ہے، یہ آسمان بھی ذکر کر رہا ہے، یہ ساری کائنات ذکر کر رہی ہے۔ اس تصور سے ذکر کے اندر ایک خاص نشاط اور کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔

حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کا ذکر کرنا

قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر کا واقعہ آتا ہے کہ جب وہ ذکر کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ساتھ میں ذکر کرتے تھے، فرمایا کہ:

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ۔

(سورۃ الانبیاء آیت ۷۹)

یعنی ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب ”سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ“ کی تسبیح پڑھتے تو پہاڑ بھی اور پرندے بھی ان کے ساتھ ”سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ“ کہتے۔

پہاڑوں اور پرندوں کے ذکر سے حضرت داؤد علیہ السلام کا فائدہ

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مسائل السکوک“ میں لکھا ہے کہ پہاڑوں اور پرندوں کے ذکر کرنے کو اللہ تعالیٰ

نے ان انعامات میں شمار فرمایا ہے جو انعامات اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر فرمائے تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ اور پرندے ذکر کرتے تھے تو اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا فائدہ پہنچتا ہے جس کی وجہ سے ان چیزوں کو بطور انعام کے ذکر فرمایا کہ:

وَمَسْخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ۔

پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یوں تو ذکر بڑی نعمت ہے، چاہے وہ ذکر کسی حالت میں بھی ہو، چاہے تہائی میں ذکر ہو، لیکن اگر ذکر کرنے والے کے ساتھ کوئی جماعت بھی ذکر کرنے میں شامل ہو جائے تو اس کے ذکر میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے، کیف پیدا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا دل ذکر میں خوب لگنے لگتا ہے۔ لہذا یہ جو پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا گیا اور ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ تم بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر کرو، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام پر انعام یہ ہے کہ ان کو ذکر میں نشاط پیدا ہو جائے۔ اسی لئے صوفیاء کرام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے سے ذکر کا ایک طریقہ یہ نکالا کہ جب تم ذکر کر دو تو یہ تصور کرو کہ یہ درود پوار، یہ پہاڑ، یہ پرندے، یہ درخت بھی میرے ساتھ ذکر کر رہے ہیں اور اس تصور کی مشق کرو، اور مشق کی کثرت کے بعد یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ واقعہ یہ سب چیزیں میرے ساتھ ذکر کر رہی ہیں، اس کے نتیجے میں اپنی طبیعت ذکر کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔

ذکر کے یہ طریقے علاج ہیں

بہر حال! حضرات صوفیاء کرام نے ذکر کے جو خاص طریقے بیان فرمائے ہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ ذکر میں انسان کا دل لگ جائے، اور یہ طریقے بطور علاج کے بیان فرمائے ہیں۔ اس لئے یاد رکھئے کہ یہ خاص طریقے نہ مقصود ہیں، نہ مسنون ہیں، اور نہ ان طریقوں کو مسنون سمجھنا جائز ہے، مثلاً ہمارے تمام مشائخ کے یہاں دوازدہ تسبیح (بارہ تسبیح) بہت معروف ہے، یہ دوازدہ تسبیح ضرب لگا کر کی جاتی ہے، مگر یہ خاص طریقہ نہ مقصود ہے اور نہ مسنون ہے، اگر کوئی شخص اس کو مسنون سمجھ لے تو یہ طریقہ بدعت ہو جائے گا، بلکہ اس کے جائز ہونے کی شرط یہی ہے کہ اس کے بارے میں یہ تصور رکھا جائے کہ یہ طریقہ مبتدی کو صرف علاج کے طور پر بتایا جاتا ہے، تاکہ اس کا دل ذکر میں لگ جائے اور خیالات میں یک سوئی پیدا ہو جائے۔

”ضرب“ لگا کر ذکر کرنے پر اعتراض

آج کل لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں، چنانچہ بعض لوگ ضرب لگا کر ذکر کرنے کو بدعت کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے اس طرح ضرب لگا کر ذکر فرمایا ہو اور نہ کسی صحابی سے ضرب لگا کر ذکر کرنا ثابت ہے، اور

جب ایسا ذکر ثابت نہیں ہے اور تم لوگ ایسا ذکر کر رہے ہو، لہذا یہ ذکر بدعت ہے۔

پھر جو شانہ پینا بدعت ہوگا

چنانچہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے تمام مشائخ بدعتی ہیں (معاذ اللہ) اس لئے کہ یہ مشائخ ضرب لگا کر ذکر کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور اس طرح ذکر کرنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ جب تمہیں نزلہ زکام ہوتا ہے تو تم ”جو شانہ“ پیتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہاں پیتا ہوں، میں نے پوچھا کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شانہ پینا ثابت ہے؟ یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو شانہ پیا؟ یا کسی صحابی سے جو شانہ پینا ثابت ہے؟ کہنے لگے کہ جو شانہ پینا تو ثابت نہیں، میں نے کہا کہ جب ثابت نہیں تو آپ کا جو شانہ پینا بدعت ہو گیا، اس لئے کہ آپ کا دعویٰ اس کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا کہ یوں کہا جائے کہ جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے، تو چونکہ جو شانہ پینا بھی ثابت نہیں، لہذا یہ بھی بدعت ہے۔

در حقیقت صحیح بات یہ ہے کہ ذکر کرنے کے یہ سارے طریقے علاج ہیں، یعنی جس شخص کا ذکر میں دل نہیں لگتا اور ذکر میں اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی، تو اس کے علاج کے لئے یہ طریقہ بتایا گیا کہ تم اس طریقے سے

ذکر کر لو، تاکہ ذکر میں تمہارا دل لگ جائے، گویا کہ جو شانہ پلایا جا رہا ہے۔

یہ طریقے بدعت ہو جائیں گے

ہاں! اگر کوئی شخص ذکر کے کسی خاص طریقے کے بارے میں یہ کہدے کہ یہ طریقہ سنت ہے، یا یہ طریقہ مستحب ہے، یا یہ طریقہ زیادہ افضل ہے تو پھر وہ طریقہ بدعت ہو جائے گا، کیونکہ افضلیت کا مدار، استحباب کا مدار، اور سنت کا مدار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت پر ہے، جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، وہ سنت نہیں ہو سکتی، وہ افضل نہیں ہو سکتی، البتہ نافع ہو سکتی ہے۔

افضل طریقہ صرف سنت کا طریقہ ہے

یعنی جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، وہ ”نافع“ ہو سکتی ہے، اور ”مفیع“ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ ”مفضل“ نہیں ہو سکتی، ہمارے بزرگوں نے افراط اور تفریط سے ہمیشہ احتراز کیا ہے۔ اس لئے ذکر کے ان خاص طریقوں کے بارے میں نہ تو یہ کہا کہ یہ بدعت ہیں، ان کو اختیار نہ کرو، اور نہ یہ کہا کہ یہ طریقہ ”مفضل“ ہے۔

ذکر خفی افضل ہے

یاد رکھئے! ذکر کے اندر افضل طریقہ ہمیشہ ہر حالت میں قیام قیامت

تک ذکر خفی ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ذکر جتنا آہستہ
آواز سے ہو گا اتنا ہی افضل ہو گا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً۔

(سورہ الاعراف، آیت ۵۵)

اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارو۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَدُونَ
الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ۔

(سورہ الاعراف، آیت ۲۰۵)

اپنے رب کو اپنے دل میں پکارو عاجزی کے ساتھ
اور چپکے ہوئے، اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے
ساتھ۔

اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ زور سے ذکر کرنا پسندیدہ نہیں، پسندیدہ
ذکر وہ ہے جو آہستہ آواز کے ساتھ ہو۔

ذکر جہری جائز ہے افضل نہیں

یہ اصول ہمیشہ کا ہے، ابدی ہے اور قیام قیامت تک کبھی نہیں ٹوٹ
سکتا کہ افضل ذکر ”ذکر خفی“ ہے، ذکر جتنا آہستہ کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ
ثواب ملے گا، البتہ ”ذکر جہری“ جائز ہے، ناجائز نہیں۔ لہذا ”ذکر جہری“

کبھی ”ذکر خفی“ سے افضل نہیں ہو سکتا، البتہ علاج کے طور پر ذکر جہری کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ذکر جہری کو افضل سمجھنے لگے یا کوئی شخص ذکر جہری کو مقصود سمجھ لے، یا ذکر جہری کو مسنون سمجھ لے، یا ذکر جہری نہ کرنے والے پر تکبر کرنے لگے، تو پھر یہی چیز بدعت بن جاتی ہے، اسی کا نام بدعت ہے۔ اس راستے میں اسی افراط اور تفریط سے بچ کر گزرنا ہے، اس لئے ہمارے اس آخری دور کے بزرگ ذکر جہری کی زیادہ ہمت افزائی نہیں کرتے بلکہ ذکر خفی کی تلقین فرماتے ہیں۔

یہ احداث فی الدین اور بدعت ہے

بات دراصل یہ ہے کہ جب کام آگے بڑھتا ہے تو اپنی حد پر نہیں رہتا، اب ذکر کے مندرجہ بالا طریقے صوفیاء کرام نے بطور علاج بتائے تھے، لیکن رفتہ رفتہ یہ طریقے خود مقصود بن گئے، اب ہر سلسلہ والوں نے اپنے لئے ذکر کا ایک طریقہ مقرر کر لیا ہے کہ فلاں سلسلے میں ”پاس انفاس“ کے طریقے سے ذکر ہوتا ہے اور فلاں سلسلے میں ”سلطان الاذکار“ ہوتا ہے، اور فلاں سلسلے میں فلاں طریقے سے ذکر ہوتا ہے، یہ اس سلسلے کی خصوصیات بن گئیں، اب اس سلسلے سے وابستہ لوگ باہر کے لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے ذکر کرتے ہیں وہ طریقہ صحیح نہیں یا افضل نہیں، صحیح اور افضل طریقہ وہ ہے جو ہمارے شیخ نے بتایا ہے۔ اس طرح سے جو چیز مقصود نہیں تھی وہ مقصود قرار پا گئی، اسی کا نام ”احداث فی الدین“

ہے، اسی کا نام ”بدعت“ ہے، اس کی جڑ کاٹنی ہے۔

ذکر میں ضرب لگانا مقصود نہیں

چنانچہ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ:

طریق خاص سے ضرب نہ مقصود ہے اور نہ موقوف علیہ مقصود، جس طرح بے تکلف بن جائے کافی ہے۔

(انفاس صیغی ص ۶۳)

یعنی ضرب لگا کر ذکر کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ نہ تو خود مقصود ہے اور نہ ہی ذکر کا جو مقصود ہے وہ اس ضرب پر موقوف ہے کہ اس ضرب کے بغیر وہ مقصود حاصل نہ ہوتا ہو، بلکہ ضرب کے بغیر بھی مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ ارے مقصود تو ان کا ذکر ہے اور ان کا نام لینا ہے جس طرح بھی بن پڑے، چاہے ضرب سے ہو یا بغیر ضرب کے ہو، لہذا ان قیود میں زیادہ پڑنے کی ضرورت نہیں۔

اصل مقصود ان کا نام لینا ہے

ایک صاحب میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت! تسبیحات تو پڑھتا ہوں، لیکن دوازدہ تسبیح نہیں ہو پاتیں، اس کو اس خاص طریقے سے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ حضرت نے ان صاحب سے پوچھا کہ طریقہ مقصود ہے یا ذکر مقصود ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت اصل مقصد تو ذکر ہے، طریقہ مقصود نہیں ہوتا۔ آپ

نے فرمایا کہ تم دوازدہ تسبیح خاص طریقے کے بغیر پڑھا کر دو۔ پھر فرمایا کہ میں بعض اوقات خاص طریقہ کے بغیر دوازدہ تسبیح پڑھ لیتا ہوں جو اطمینان سے ۱۵ منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، اس لئے کہ اگر خاص طریقے سے ضرب لگا کر پڑھا جائے تو اس کے لئے چالیس منٹ چاہئیں۔ بہر حال! ضرب لگا کر ذکر کرنا نہ تو مقصود ہے نہ مسنون ہے، اگر موقع ہو تو کر لو ورنہ سیدھے سادھے طریقے سے جس طرح بن پڑے ذکر کر لو اور اللہ کا نام لے لو، اس لئے اصل مقصود تو ان کا نام لینا ہے۔

ایک قوم ان طریقوں کو بدعت کہتی ہے

یہ تفصیل اس لئے عرض کر دی کہ ہمارے دور میں افراط و تفریط چل رہی ہے، ایک قوم وہ ہے جو صوفیاء کرام کے ان طریقوں کو علی الاطلاق بدعت کہتی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تصوف بھی بدعت ہے اور یہ خانقاہیں بھی بدعت ہیں اور یہ چلہ کشی بھی بدعت ہے اور ذکر کرنے کے یہ خاص طریقے بھی بدعت ہیں۔

دوسری انتہا

دوسری طرف ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جس نے ذکر کے ان خاص طریقوں کو ہی مقصود بالذات بنا دیا، چنانچہ یہ جاہل پیر اپنی خانقاہیں بھی کھول کر بیٹھ گئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جس نے ”پاس انفاس“ کے

طریقے سے ذکر نہیں کیا وہ تصوف کے حروف ابجد سے بھی واقف نہیں،
گویا کہ ”پاس انفاس“ ہی مقصود بالذات ہے۔ یہ دوسری انتہا ہے۔

ہمارے بزرگوں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اعتدال کا راستہ
دکھا دیا اور اس پر ہمیں چلا دیا، اس اعتدال کے راستے میں نہ افراط ہے اور نہ
تفریط ہے۔ اور یہ بتا دیا کہ یہ راستہ جائز ہے لیکن بذات خود مقصود نہیں، اس
پر عمل کرو۔

فکر سے اُنس ہو جانا ذکر ہی کی برکت ہے

ایک شخص نے حضرت والا کو اپنا حال لکھا کہ:

دل چاہتا ہے کہ ذکر چھوڑ دوں اور بیٹھ کر سوچتا رہوں،
اور ذکر میں طبیعت کم لگتی ہے۔

حضرت والا نے جواب میں لکھا کہ:

یہ جو لکھا ہے کہ ذکر چھوڑ دوں اور بیٹھ کر سوچتا رہوں،
سو یہ برکت ذکر ہی کی ہے کہ ”فکر“ سے اُنس ہو گیا،
ذکر کو ہرگز نہ چھوڑنا ورنہ بناء کے انعدام سے بنی کا
تھدام ہو جائے گا، خواہ دل لگے یا نہ لگے، معمولات پر
استقامت رکھیں۔

(انفاس عیسیٰ، ص ۶۳)

فکر ذکر کا نتیجہ ہے

”ذکر ہی کا ایک نتیجہ ”فکر“ ہے، جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيلًا وَقَوْلًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ -

(سورہ آل عمران، آیت ۱۹۱)

وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹنے کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں فکر کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں نیک لوگوں کی ایک صفت ”ذکر“ بیان فرمائی اور دوسری صفت ”فکر“ بیان فرمائی، جس سے اس طرف اشارہ فرمادیا کہ ”ذکر“ کے ساتھ ساتھ فکر بھی ہونی چاہئے، ذکر کا لازمی نتیجہ ”فکر“ ہونی چاہئے، یعنی کثرت ذکر کے نتیجے میں انسان اللہ جل شانہ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کا جلال اور اس کی محبت کے خیالات میں گم ہو جاتا ہے، اسی کا نام ”فکر“ ہے، یہ ”فکر“ ذکر کا ثمرہ اور نتیجہ ہوتا ہے۔

حضرت والا نے فرمایا کہ تمہیں جو یہ خیال آرہا ہے کہ ذکر چھوڑ دوں اور بیٹھ کر سوچتا رہوں، یہ بھی درحقیقت ذکر ہی کی برکت ہے کہ اس ذکر کے نتیجے میں اللہ جل شانہ کی عظمت کا، اس کے جلال کا، اس کی قدرت کا اور اس کی محبت کا جو خیال دل میں پیدا ہو گیا، یہ ذکر ہی کا ثمرہ ہے، لیکن چونکہ یہ برکت ذکر ہی کی ہے، اس لئے ذکر کو ہرگز نہ چھوڑنا، ورنہ ہنہ یعنی بنیاد کے

انہدام سے مٹی کا یعنی اس بنیاد پر قائم عمارت کا انہدام ہو جائے گا۔

ذکر مت چھوڑنا

یعنی دل میں یہ جو خیال آ رہا ہے کہ دن رات بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلال اور محبت کو سوچتا رہوں اور یہ حالت ہو جائے کہ:

دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن
بیٹھے رہیں تصور جاناں کئے ہوئے

یہ کیفیت بڑی اچھی ہے، لیکن یہ کیفیت ”ذکر“ ہی کی برکت سے حاصل ہوئی ہے، اب اگر تم نے ذکر چھوڑ دیا تو رفتہ رفتہ ”فکر“ کی یہ کیفیت بھی ختم ہو جائے گی۔ لہذا یہ مت سوچنا کہ میں چونکہ ”فکر“ کی کیفیت تک پہنچ گیا ہوں، اس لئے اب ذکر کی ضرورت نہیں، اس کو چھوڑ دوں۔

ذکر قلبی کے باوجود ذکر لسانی نہ چھوڑے

دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ”ذکر“ سے مراد ”ذکر لسانی“ ہے اور ”فکر“ سے مراد ”ذکر قلبی“ ہے، جب انسان اللہ جل جلالہ کی قدرت، اس کی عظمت شان اور اس کے جلال میں گم ہوتا ہے تو اسی کا نام ذکر قلبی ہے، گویا کہ دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ جب ذکر لسانی کرتے کرتے دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال جم گیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت اور محبت کا خیال دل میں جم گیا تو مقصود

حاصل ہو گیا، اور مقصود کے حاصل کرنے کا جو ذینہ اور ذریعہ تھا یعنی ذکر لسانی، اب اس کی ضرورت نہ رہی، لہذا انہوں نے ذکر لسانی چھوڑ دیا۔ یاد رکھئے! یہ شیطان کا دھوکہ ہے، کیونکہ جب ذکر لسانی چھوڑ دیا تو رفتہ رفتہ ذکر قلبی بھی چھوٹ جائے گا، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت والا نے فرمایا کہ ”بناء کے انہدام سے معنی کا انہدام ہو جائے گا“۔

جاہل پیروں کا یہ خیال گمراہی ہے

چنانچہ جاہل پیروں کا ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم تو اب درویش اور فقیر ہو گئے ہیں اور اب تو ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گم ہیں، لہذا اب ہمیں نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ تلاوت کی ضرورت، نہ تسبیحات کی ضرورت۔ اس لئے کہ نماز کا مقصود تو ”وصول الی اللہ“ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جانا، اب جب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کا خیال جم گیا، تو اب ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، اب ہم مسجد جائیں یا نہ جائیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھئے! یہ گمراہی ہے، اور یہ گمراہی یہاں سے پیدا ہوئی کہ ”ذکر قلبی“ کو اس درجہ کا مقصود قرار دیدیا کہ اس کے نتیجے میں ظاہری عبادات کو بیکار سمجھ جانے لگا، یہی گمراہی

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا واقعہ

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ سے بارہا سنا، انہوں نے یہ واقعہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا، وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اس دوران کمرے میں ایک زبردست قسم کا نور چمکا، اور اس نور نے حضرت کو اور آس پاس کی تمام اشیاء اور پورے کمرے کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور اس نور میں سے آواز آئی کہ اے عبدالقادر! تو ہمارے ساتھ تعلق کے اس مقام تک پہنچ گیا کہ اب تیرے ذمے نہ نماز فرض ہے اور نہ روزہ فرض ہے، اب توجو چاہے کہ اب تو ہمارے قرب کے مقام تک پہنچ گیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ مردود دور ہو جا، ارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرب کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے باوجود ان سے تو نماز ساقط نہیں ہوئی، مجھ سے کیسے ساقط ہو جائے گی؟ اس سے پتہ چلا کہ تو شیطان ہے اور مجھے بہکانے آیا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ نور غائب ہو گیا۔

اس کے بعد دوسرا نور ظاہر ہوا، اس میں سے آواز آئی اے عبدالقادر! آج تجھے تیرے علم نے بچالیا، ورنہ یہ وہ داؤ ہے جس کے ذریعہ میں نے بڑے بڑے صوفیاء کو شکست دیدی اور ان کو گمراہ کر دیا۔ شیخ عبدالقادر

جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مردود! دور ہو جا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، مجھے پھر دھوکہ دیتا ہے۔ یہ دوسرا داؤ پہلے داؤ سے زیادہ خطرناک اور نازک تھا، اس لئے کہ اس کے ذریعہ ان کو اپنے علم پر ناز میں مبتلا کرنا مقصود تھا، لیکن آپ اس داؤ سے بچ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے فضل و کرم نے بچایا ہے۔

ذکر لسانی کو جاری رکھنا چاہئے

بہر حال! یہ بات کہ چونکہ ذکر قلبی ہمارے دل و دماغ میں پوست ہو چکا ہے، لہذا اب ذکر لسانی سے مستغنی ہو گئے، اب ہم نماز سے مستغنی ہو گئے، یہ سب گمراہی ہے۔ اسی لئے حضرت والا نے فرمایا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہر وقت دل میں فکر رہنے لگی، اللہ جل شانہ کی طرف دھیان رہنے لگا، جس کو صوفیاء کرام ”تعلق مع اللہ“ اور ”نسبت“ اور ”ملکہ یادداشت“ سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ذکر لسانی کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں، اس لئے یہ نہ ہو کہ اب ذکر لسانی چھوڑ بیٹھو، بلکہ ذکر لسانی کو ہرگز مت چھوڑنا، ورنہ بناء کے انہدام سے معنی کا انہدام ہو جائے گا، خواہ دل لگے یا نہ لگے، لیکن پھر بھی زبردستی بیٹھ کر ذکر کرتے رہو اور معمولات پر استقامت رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب نوان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَأَجْرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مجلس نمبر ۳۵

نماز میں آنکھیں بند کرنا

جلس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی



منشیہ و تہذیب
مخبرہ اشرفیہ

میعین اسلامک پبلشرز

۱/۱۸۸ ریاست آباد کراچی ۱۱

مقام خطاب : جامع مسجد دارالعلوم کراچی
 وقت خطاب : بعد نماز ظہر۔ رمضان المبارک
 اصلاحی مجالس : جلد نمبر ۳
 مجلس نمبر : ۳۵
 صفحات : ۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

مجلس نمبر ۳۵

نماز میں آنکھیں بند کرنا

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ -
وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اٰجْمَعِیْنَ -

اَمَّا بَعْدُ!

حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ:

مبتدی کو اجازت ہے کہ خواہ آنکھ کھول کر نماز پڑھے یا
بند کر کے نماز پڑھے، اکثر صفراوی یا سوداوی قیود سے
متوحش ہوتے ہیں، خصوص جبکہ اس کے ساتھ ضعف

بھی منضم ہو جائے اور ضعف مقتضی تکثیر قیود کو نہیں بلکہ
مقتضی تقلیل قیود کو ہے، قیود سے جو اصل مقصود ہے
”پاثر“ خود وہی کام ضعف دیتا ہے۔

(انفاس عیسیٰ ص ۶۳)

آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا سنت ہے

نماز کے بارے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ نماز آنکھیں کھول کر پڑھنی
چاہئے۔ نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ بھی یہی ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے تو
آنکھیں بند نہ کرے بلکہ کھلی رکھے۔ اگرچہ فقہاء نے یہ بھی فرمادیا ہے کہ اگر
کسی شخص کو آنکھیں بند کئے بغیر خشوع حاصل نہ ہوتا ہو تو اس صورت میں
آنکھیں بند کر لینا بھی جائز ہے، لیکن افضل ہر حالت میں یہی ہے کہ آنکھیں
کھلی رکھے۔ اسی لئے بعض بزرگوں نے یہ فرمایا کہ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم نماز میں آنکھیں بند نہیں فرماتے تھے بلکہ آنکھیں کھول کر نماز
پڑھا کرتے تھے، اس لئے اتباع سنت کی برکت آنکھیں کھول کر نماز پڑھنے
میں ہے، چاہے نماز میں دل لگے یا نہ لگے، اس درجے کا خشوع حاصل ہو یا
حاصل نہ ہو، خیالات آئیں یا نہ آئیں، اتباع سنت کا ثواب اسی میں ہے کہ
آدمی آنکھیں کھول کر نماز پڑھے، اگرچہ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھنا
جائز ہے مگر افضل نہیں۔

بزرگوں نے فرمایا کہ اصل بات تو اتباع سنت کی ہے جو نور اتباع

سنت میں ہے، وہ نور دوسرے کاموں میں نہیں ہو سکتا۔ لہذا چاہے نماز میں دل لگے یا نہ لگے، خشوع پیدا ہو یا نہ ہو، اتباع سنت چونکہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنے میں ہے، اس لئے ہم تو آنکھیں کھول کر نماز پڑھیں گے۔

حضرت شیخ الہندؒ اور اتباع سنت

حتیٰ کہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ سرہ وتر کے بعد کی دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ فقہاء کرام نے صاف صاف لکھا ہے کہ اگر نوافل کھڑے ہو کر پڑھیں تو پورا ثواب ہے، اگر بیٹھ کر پڑھیں تو آدھا ثواب ہے، اور وتر کے بعد کی دو رکعتوں کے بارے میں فقہاء یہی لکھتے ہیں کہ بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا ثواب ہے۔ لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت! آپ یہ جو دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کھڑے ہو کر کیوں نہیں پڑھتے؟ جواب میں حضرت نے فرمایا کہ روایات میں کثرت سے یہ آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد کی دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اس لئے میں بھی بیٹھ کر پڑھ لیتا ہوں۔ کسی نے پھر پوچھا کہ حضرت! ثواب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس لئے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر بیٹھ کر نماز پڑھیں تو آدھا ثواب ملتا ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو پورا ثواب ملتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ثواب تو آدھا ہی ملتا ہے، اس لئے کہ قاعدہ یہی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

نے یہی قاعدہ بیان فرمایا ہے، اور فقہاء نے بھی یہی قاعدہ بیان فرمایا ہے۔
 پھر سوال کیا کہ حضرت! جب بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے تو آپ
 پورا ثواب لینے کے لئے کھڑے ہو کر کیوں نہیں پڑھتے؟ جواب میں ایک
 جملہ ارشاد فرمایا کہ:

بھائی بات یہ ہے کہ اتباع سنت کے کام میں جی زیادہ
 لگے، پڑے ثواب کم ہو۔

یعنی اگر ثواب کم ملے تو اس میں کچھ حرج نہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ
 علیہ وسلم نے وہ کام جس طرح کیا ہے، اس طرح کرنے میں طبیعت زیادہ
 لگتی ہے اور وتر کے بعد کی نفلوں کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ
 کر پڑھنا ثابت ہے، اس واسطے بیٹھ کر پڑھنے میں طبیعت زیادہ لگتی ہے، ٹھیک
 ہے ثواب کم ملتا ہے تو کم ملے۔

بہر حال! ہمارے بزرگوں کا یہ مزاج ہے کہ جس کام میں اتباع سنت
 ہو اس کو پکڑ لو، اور آنکھوں کو کھلا رکھ کر نماز پڑھنا سنت ہے، چاہے اس
 درجے کا خشوع حاصل نہ ہو، لیکن پھر بھی اتباع سنت کا جو نور اس میں ہے
 وہ آنکھیں بند کرنے میں نہیں ہے، یہ تو عام اصول ہے۔

مبتدی کو آنکھیں بند کرنے کی اجازت

لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس ملفوظ میں فرماتے ہیں کہ ایک
 شخص نیا نیا دین کی طرف آیا اور اس نے نماز پڑھنی شروع کی، اب اگر تم اس

پر بہت زیادہ قیدیں اور شرطیں لگا دو گے اور اس سے کہو گے کہ دیکھ بھائی! آنکھ بند کر کے نماز نہ پڑھنا، آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا، چونکہ وہ شخص مبتدی ہے، اس لئے اگر تم اس پر زیادہ قیدیں شرطیں لگا دو گے تو وہ بھاگ جائے گا اور اس کی طبیعت میں دین سے توحش پیدا ہو جائے گا۔ لہذا مبتدی پر زیادہ قیدیں شرطیں نہیں لگانی چاہئیں، اور اس کو اس بات کا پابندی نہیں کرنا چاہئے کہ وہ آنکھیں کھول کر ہی نماز پڑھے۔ اس لئے حضرت والا نے فرمایا کہ:

مبتدی کو اجازت ہے، خواہ آنکھ کھولے ہوئے نماز پڑھے یا بند کر کے۔

زیادہ قیود و حشت کا باعث ہوتی ہیں

پھر آگے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ:

اکثر صفاوی یا سوداوی قیود سے متوحش ہوتے ہیں۔

یعنی جس شخص کا مزاج سوداوی یا صفاوی ہے، اگر اس کے اوپر زیادہ پابندی عائد کی جائے کہ یہ کام اس طرح کرو اس طرح نہ کرو، اور یہ کام اس طرح نہ کرو، اس طرح کرو تو اس پابندی کے نتیجے میں اس کی طبیعت میں وحشت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو کام وہ پہلے اچھا خاصا کر رہا تھا، اس کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے، اس لئے مبتدی پر زیادہ قیود نہیں لگانی چاہئیں، خاص طور پر اگر اس شخص کی طبیعت میں ضعف اور کمزوری بھی ہو، جیسے آج کل لوگوں

کے اندر سو فیصد ضعف موجود ہے، تو ایسی صورت میں قیود انسان کے لئے پریشان کن بن جاتی ہیں اور طبیعت میں دلجمعی باقی نہیں رہتی۔ اس لئے جو انسان ضعیف اور کمزور ہو، اس پر سے قیود کم کرنی چاہئیں نہ یہ کہ قیود اور زیادہ بڑھادی جائیں، کیونکہ قید لگانے سے جو فائدہ اس کو حاصل ہوتا، مثلاً یہ قید اس پر لگادی جائے کہ تم آنکھیں کھول کر ہی نماز پڑھا کرو، تو اس صورت میں آنکھیں کھول کر نماز پڑھنے سے اتباع سنت کا جو فائدہ اس کو حاصل ہوتا، وہی فائدہ اس کو جسمانی کمزوری کے باوجود عبادت کرنے میں حاصل ہو جائے گا، اور وہ جسمانی کمزوری اس فائدے کی تلافی کر دیتی ہے، اس لئے مبتدی پر زیادہ قیود لگانے کی فکر نہیں کرنی چاہئے، اس کو ذرا عبادت کی طرف گھیر گھار کر لے آؤ، جب عبادت کا عادی بن جائے، اس وقت قیود لگادینا۔ دراصل ابتدائی حالات میں کسی قسم کی رعایت دینا اس عمل کی طرف لانے کے لئے ہی ہوتا ہے، ان آداب و شرائط کی نفی کر دینا یا ان کی اہمیت ختم کر دینا مقصود نہیں ہوتا، تربیت کرنے والے اسے خوب سمجھتے ہیں۔

ایک خان صاحب کو راستے پر لانے کا واقعہ

چنانچہ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ کسی گاؤں میں گزر رہے تھے، وہاں دیکھا کہ ایک مسجد ویران پڑی ہے، لوگوں سے پوچھا کہ یہ مسجد ویران پڑی ہے، تم لوگ اس کو آباد کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک خان صاحب رہتے ہیں، وہ

اس علاقے کے سردار ہیں، ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں، نہ نماز سے کوئی تعلق، نہ روزے سے کوئی تعلق، ہر وقت شراب و کباب کا مشغلہ رہتا ہے اور نشہ میں دھت پڑے رہتے ہیں، بازاری عورتوں کا آنا جانا ہے، نماز کی طرف دھیان نہیں، ان کی وجہ سے پوری بستی خراب ہو گئی ہے، اگر خان صاحب نماز کے لئے مسجد میں آجائیں تو ساری بستی نماز پڑھنا شروع کر دے گی۔

مولانا صاحب نے فرمایا کہ مجھے انکا پتہ بتاؤ اور ان سے میری ملاقات کراؤ۔ لوگوں نے خان صاحب کا مکان بتا دیا کہ فلاں مکان ہے۔ چنانچہ مولانا صاحب ان کے گھر دعوت دینے پہنچے اور ملاقات ہوئی تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ بھائی خان صاحب! آپ باشاء اللہ مسلمان ہیں، یہاں آپ کے محلے کی مسجد ویران پڑی ہے، اگر آپ مسجد میں نماز کے لئے چلے جایا کریں تو لوگ بھی آپ کو دیکھ کر مسجد میں آجایا کریں گے اور مسجد آباد ہو جائے گی، اور آپ کے نامہ اعمال میں بڑا خزانہ جمع ہو جائے گا۔ مولانا صاحب نے بات جو اس انداز سے کہی کہ خان صاحب کی طبیعت پر کچھ اثر ہوا، لیکن خان صاحب کہنے لگے کہ میں نماز پڑھنے کو تیار ہوں، البتہ مجھ سے وضو نہیں ہو سکتا، وضو کرنا میرے بس کا کام نہیں۔ دوسرے یہ کہ مجھ سے شراب نہیں چھوٹی، تیسرے یہ کہ یہ عورتوں کے آنے جانے کا مشغلہ یہ مجھ سے نہیں چھوٹا، اب ایسی حالت میں میں کیا نماز پڑھوں!! اس لئے میں نماز کے لئے نہیں جاتا۔ مولانا صاحب پہلے تو بڑے شیشائے کہ ان کو کیا

جواب دوں، پھر کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ تم نماز پڑھنے کو تیار ہو؟ خان صاحب نے کہا کہ ہاں! میں نماز پڑھنے کو تیار ہوں، لیکن مجھ سے وضو نہیں ہو سکتا۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ اچھا بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو، اور دوسرے مشغلے بھی اس کے ساتھ چلتے رہیں تب بھی کوئی بات نہیں۔ خان صاحب نے تعجب سے پوچھا کہ بغیر وضو کے نماز!! مولانا صاحب نے فرمایا کہ ہاں! بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو، لیکن نماز کے لئے مسجد میں چلے جایا کرو۔ خان صاحب نے کہا کہ اگر اتنا آسان معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، میں چلا جایا کروں گا۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ وعدہ کرو کہ نماز کے لئے مسجد جاؤ گے، خان صاحب نے وعدہ کر لیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جاؤں گا۔

مولانا صاحب نے یہاں تو خان صاحب سے وعدہ لے لیا اور بلا وضو نماز پڑھنے کی اجازت بھی دیدی، لیکن ان کے گھر سے باہر نکل کر سیدھے اسی مسجد میں پہنچے اور جا کر دو رکعتیں پڑھیں، اور پھر نماز کے بعد سجدے میں جا کر خوب روئے اور گڑ گڑائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ! میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں اس سے یہ کہہ دیتا، آگے آپ کا کام ہے۔

جب نماز کا وقت آیا تو خان صاحب کو یاد آیا کہ میں نے وعدہ کر لیا ہے، اس لئے مجھے نماز کے لئے مسجد میں جانا چاہئے، چنانچہ جانے کا ارادہ کر لیا، اور جب گھر سے نکلنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ آج تو پہلی بار نماز کے لئے جا رہا ہے، اگرچہ مولوی صاحب نے تو اجازت دیدی کہ بغیر وضو کے پڑھ لینا، لیکن تم پہلی مرتبہ اتنے عرصے کے بعد جا رہے ہو، کم از کم

آج تو وضو کر ہی لو، اور صرف وضو ہی نہیں بلکہ آج پہلے دن غسل کر کے جاؤ، پھر بعد میں چاہو تو بغیر وضو کے پڑھتے رہنا۔ چنانچہ غسل کیا، اچھے پاک صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور گھر سے نکل کر مسجد پہنچے، اور جب نماز پڑھی تو بس دل کی کایا ہی پلٹ گئی، اور جب واپس آئے تو شراب و کباب کے جو مشغلے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفرت دل میں ڈال دی، اس کے بعد خان صاحب ایسے کپے نمازی بنے کہ با وضو بیچ وقت نماز پڑھنے لگے۔

بے وضو نماز کی اجازت دینے کا اعتراض

اب زاہد خشک اس پر اعتراض کرے گا کہ مولانا صاحب نے خان صاحب کو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دیدی، حالانکہ بعض اوقات بے وضو کے نماز پڑھنا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اعتراض کرنے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان مولانا صاحب نے ایک طرف تو خان صاحب کو بلا وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دی، تو دوسری طرف انہوں نے مسجد میں آکر سجدہ میں گر کر اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ! یہاں تک تو میں لے آیا، آگے آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔

بات دراصل یہ تھی کہ بعض اوقات مبتدی پر سے قیدیں اور شرطیں ہٹا دینا اس کو صحیح راستے پر لانے کے لئے مفید ہوتا ہے، البتہ یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں کہ تم بھی بغیر وضو کے نماز پڑھنے کا فتویٰ دیدو، بلکہ وہ اللہ کے بندے جس کے قول اور فعل میں اللہ تعالیٰ تاثیر عطا فرمادیتے

ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ فہم اور بصیرت بھی عطا فرماتے ہیں، اور درد اور سوز بھی عطا فرماتے ہیں، انہی کو ایسی بات زبان سے نکالنے کا حق ہوتا ہے، جیسے حافظ شرازی کا مشہور شعر ہے۔

مئے سجاده رنگین کن گرد پیر مغاں گوید

کہ سالک بے خبر نبود ز راہ و رسم منزلہا

یعنی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مصلے کو شراب سے رنگ دوایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ شعر درحقیقت اسی قسم کے مواقع کے بارے میں کہا گیا ہے۔

بہر حال! مبتدی جو ابھی ابھی اس راستے پر آیا ہے، اس پر زیادہ قیدیں شرطیں لگانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی طرف متوجہ ہوا ہے اور خیالات کو منتشر ہونے سے بچانے کے لئے اور یک سوئی پیدا کرنے کے لئے کسی وقت آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کو اس کا دل چاہے تو وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لے، اس کی اجازت ہے۔ انشاء اللہ ایسا شخص جب یکسوئی کا عادی ہو جائے گا تو آنکھیں کھلی رکھ کر بھی یکسوئی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنے لگے گا، البتہ سفت اور افضل ہر حالت میں اسی کیفیت کو سمجھتا رہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مجلس نمبر ۳۶

معمولات کی پابندی

جلس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی



مستطاب و مرتب
توسعہ المذہب

میمن اسلامک پبلشرز

۱/۱۸۸۔ لیاقت آباد، لاپور

مقام خطاب : جامع مسجد دارالعلوم کراچی
 وقت خطاب : بعد نماز ظہر۔ رمضان المبارک
 اصلاحی مجالس : جلد نمبر
 مجلس نمبر :
 صفحات :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

مجلس نمبر ۳۶

معمولات کی پابندی

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ - وَالْعَاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِیْنَ - وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ
وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

اپنے معمول سے زائد ذکر کرنے کا حکم

حضرت والائے ارشاد فرمایا:

اگر معمول سے زیادہ ذکر کو طبیعت چاہے تو کرے،
لیکن اس زائد کو لازم نہ سمجھے، اور جب بعد چندے
امید دوام ہو جائے تو التزام کرے۔

(انفاس بیسی ص ۶۳)

بہترین عمل

یہ وہی بات ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں ارشاد فرمائی، اور اسی کی بنیاد پر تمام بندگانِ دین کا معمول یہ رہا ہے کہ انسان کم سے کم معمولات مقرر کرے جس کو پابندی سے نبھا سکتا ہو، چاہے ایک تسبیح مقرر کرے، لیکن پابندی سے کرے، نہ یہ کہ ایک دن تو پچاس تسبیح پڑھ لیں اور دوسرے دن چھٹی کر لی۔ تھوڑا کرے، لیکن پابندی سے کرے، اس میں زیادہ ثواب ہے، زیادہ افضل بھی ہے اور زیادہ مفید بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ کونسا عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا، ان دونوں نے جواب دیا:

مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَاِنْ قَلَّ

آپ کا پسندیدہ عمل وہ ہے جس کی پابندی کی جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔

(ترمذی، کتاب الادب، باب نمبر ۷۳، حدیث نمبر ۲۸۵۲)

مداومت کے مفید ہونے پر مثال

دیکھئے! ایک ٹل میں سے ایک ایک قطرہ پانی ٹپک رہا ہے، لیکن مسلسل ٹپک رہا ہے، اس کے نیچے چاہے کتنا بھی سخت پتھر ہو، وہ قطرہ ایک نہ ایک

ون اس پتھر میں سوراخ کر دئے گا، اگر وہ پابندی سے چمکتا رہا دوسری طرف اگر آپ نے پورے پریش سے نکلا کھولا، اور پانی پوری قوت کے ساتھ بہتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے وہ نکلا بند کر دیا، تو اب وہ پانی تو بہت تیزی سے بہ گیا، لیکن اس نے پتھر میں کوئی اثر نہیں کیا۔ حالانکہ ایک قطرے نے تو پتھر میں سوراخ کر دیا، لیکن اس تیز دھار نے کوئی سوراخ نہیں کیا، اس لئے کہ وہ ایک قطرہ اگرچہ مقدار کے اعتبار سے تھوڑا تھا، لیکن پابندی کے ساتھ تھا، اس لئے اس نے یہ اثر کر دیا۔ بالکل اسی طرح اگر ایک دن تو جوش میں آکر خوب عبادت کر لی اور خوب ذکر کر لیا، لیکن اگلے دن غائب، اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں۔ بہر حال! نقلی اعمال میں جس عمل کی پابندی ہو سکے، وہ زیادہ کار آمد، زیادہ فائدہ مند اور زیادہ افضل ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔

معمول تھوڑا مقرر کرو لیکن پابندی سے کرو

اسی لئے بزرگوں نے فرمایا کہ جب انسان ذکر و تسبیح کا اپنا کوئی معمول بنائے تو تھوڑا معمول بنائے، تاکہ اس کی پابندی کر سکے، مثلاً اگر روزانہ ایک تسبیح پڑھ سکتے ہو تو بس ایک تسبیح کا معمول بناؤ، یا مثلاً اگر روزانہ ایک پارہ تلاوت کر سکتے ہو تو اس کا معمول بناؤ، اگر ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے تو آدھے پارے کا معمول بناؤ، آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے تو پانچ پارے کا معمول بناؤ، پانچ پارہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک رکوع روزانہ پڑھنے کا معمول بناؤ، لیکن جو معمول

بناؤ پھر اس کو پابندی سے پورا کرو۔ یہ گنڈے دار عمل کرنا کہ آج عمل کیا، کل چھوڑ دیا، پرسوں پھر کر لیا، اس سے اگلے دن پھر چھوڑ دیا، اس سے کوئی قابل ذکر فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

قَلِيلٌ تَدْوَمُ عَلَيْهِ اَزْجِي مِنْ كَثِيْرٍ مُنْمَلُوْلٍ۔

یعنی وہ تھوڑا عمل جس کو تم پابندی کے ساتھ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عمل کی زیادہ امید ہے نسبت اس زیادہ عمل کے جو گنڈے دار ہو، کہ آج کیا اور کل چھوڑ دیا، پرسوں کیا اور ترسوں چھوڑ دیا۔

زائد ذکر کو معمول میں داخل نہ کرو

لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ابتداء میں کسی نے ذکر کرنا شروع کیا، تو شروع شروع میں ذکر کے اندر دل لگا، اور ذکر کی وجہ سے دل میں نشاط پیدا ہوا، تو اب دل چاہا کہ اور زیادہ ذکر کروں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر معمول سے زیادہ ذکر کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور زیادہ کر لو، لیکن اس زیادہ ذکر کو اپنے معمول میں داخل نہ کرو، معمول میں صرف اس ذکر کو داخل رکھو جس کی پابندی تم سے ہو سکتی ہے۔ مثلاً آج زیادہ ذکر کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تو آج زیادہ ذکر کر لو، لیکن معمول اسی کو رکھو جو ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہو۔ البتہ اگر اس زائد ذکر کی پابندی ہونے لگے تو پھر بعد میں اس کو بھی معمول میں

داخل کر لینا۔

اسی ذکر کو دوبارہ دھر الو

بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب کوئی شخص کسی شیخ سے رجوع کرتا ہے اور شیخ اس کو کچھ ذکر بتا دیتا ہے کہ یہ ذکر روزانہ کر لیا کرو، جب وہ ذکر کرتا ہے اور ذکر میں نشاط محسوس ہوتا ہے تو وہ شیخ سے کہتا ہے کہ مجھے مزید ذکر بتائیے، اور ذکر کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تو ایسے موقع پر ہمارے بزرگ اس کو نیا ذکر بتانے کے بجائے اس سے کہتے ہیں کہ تم پر انا ذکر دوبارہ دھر الو۔ مثلاً ”لا الہ الا اللہ“ سو مرتبہ پڑھتے ہو، اس کو دو سو مرتبہ پڑھو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جوش میں آکر ذکر زیادہ تو کر لیا، لیکن چند روز کے بعد سست پڑ گئے اور اس کو پھر چھوڑ دیا۔

بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ایک ہی رات میں کر لیں، رمضان المبارک کی راتوں میں تو خاص طور پر یہ جوش آتا ہے کہ آج رات جو کچھ عبادت کرنی ہے کر لو، چنانچہ سارا جوش اسی ایک رات میں ٹھنڈا کر لیا اور اگلے دن پڑ سکے سو گئے، اور پھر فرض نمازوں کا بھی اہتمام نہیں رہا، چہ جائیکہ تہجد اور دوسرے نوافل کا اہتمام ہوتا۔

حضرت گنگوہیؒ کا ایک ملفوظ

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ میں نے اپنے والد ماجد

رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم عبادت کر رہے ہو، چاہے وہ عبادت نماز ہو، ذکر ہو، تلاوت قرآن ہو، اس عبادت کو جی بھرنے سے ذرا پہلے چھوڑ دو، اور عبادت کے اس شوق کو بالکل انتہاء تک نہ پہنچاؤ، بلکہ اس وقت عبادت چھوڑ دو جبکہ ابھی مزید عبادت کرنے کی خواہش دل میں موجود ہے۔ جیسے کھانے کے اندر بھی بزرگوں نے یہ بتلایا کہ کھانا اس وقت چھوڑ دو جبکہ ابھی تھوڑی سی خواہش کھانے کی موجود ہو، پیٹ بھر کر اتمامت کھاؤ کہ سانس لینے کی گنجائش بھی نہ رہے۔ اسی طرح نقلی عبادت اس وقت چھوڑ دو جب مزید عبادت کرنے کی خواہش ابھی باقی ہو، بالکل انتہا تک نہ پہنچاؤ۔

”چک ڈور“ کی مثال

حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال ”چک ڈور“ سے دیا کرتے تھے، جس سے بچے کھیلا کرتے تھے۔ آج کل تو اس کا رواج نہیں رہا، ہمارے دیوبند میں اس کو ”چک ڈور“ کہا کرتے تھے، اور یہاں پر شاید اس کو ”چکی“ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک گول سا پتہ ہوتا تھا، جس پر دھاگہ پینا جاتا تھا اور پھر اس کو دور پھینکتے تھے، پھر واپس کھینچتے تھے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”چکی“ کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے اوپر دھاگہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، جب اس ”چکی“ کو پھینکتے ہیں تو اس کا دھاگہ کھل جاتا ہے، اگر تم نے ”چکی“ کو پھینکتے وقت پورا دھاگہ کھول دیا تو

اب ”چکی“ واپس نہیں آئے گی اور خود بخود اس پر دھاگہ دوبارہ نہیں لپٹے گا۔ ”چکی“ اس وقت واپس آتی ہے جب اس میں تھوڑا سا دھاگہ لپٹا ہوا باقی رہ جائے، اس وقت اس کو کھینچنے سے وہ چکی واپس بھی آ جاتی ہے اور دھاگہ بھی دوبارہ اس پر لپٹ جاتا ہے۔

خواہش باقی رہتے ہوئے عبادت چھوڑ دو

یہ مثال بیان کرنے کے بعد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسی طرح اگر تم نے عبادت کے دوران سارا دھاگہ کھول دیا اور اتنی عبادت کر لی کہ اب جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور مزید عبادت کرنے کی خواہش باقی نہ رہی، تو اب تم دوبارہ عبادت کی طرف واپس نہیں لوٹو گے۔ اور اگر تم نے عبادت کو اسی وقت چھوڑ دیا جب کہ ابھی عبادت کرنے کی تھوڑی سی خواہش باقی ہے تو تم پھر عبادت کی طرف واپس آ جاؤ گے۔

دل عبادت میں اٹکا ہونا بہتر ہے

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ اس مثال کو بیان فرمانے کے بعد فرماتے تھے کہ یہ اچھی بات ہے کہ کوئی انسان دنیا کے کام میں لگا ہوا ہو، لیکن اس کا دل عبادت میں اٹکا ہوا ہو کہ مجھے اس کام سے جلد فرصت ملے تو میں جا کر عبادت کروں۔ یہ صورت زیادہ بہتر ہے نسبت اس کے کہ تم عبادت تو کر رہے ہو، لیکن دل دنیا کی

طرف لگا ہوا ہے کہ جلدی سے عبادت سے فراغت ہو تو جا کر اپنے کام دھندے میں لگوں۔

تھوڑی حسرت باقی رکھو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بکثرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اور جب میری حرمین شریفین میں حاضری ہوتی ہے اور وہاں سے واپسی کے موقع پر آخری مرتبہ دعا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد واپسی ہوتی ہے تو اس وقت بکثرت یہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ۔

کہہ چکا جی بھر کے جو کچھ ان سے کہنا تھا مجھے

پھر بھی اب تک حسرت تمنادل میں ہے

یعنی جو ان سے کہنا تھا وہ کہہ تو دیا، لیکن مزید کہنے کی حسرت بھی دل میں باقی ہے۔ چنانچہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہی تو فرماتے تھے کہ تھوڑی سی حسرت اپنے دل میں باقی رکھو، ایک ہی مرتبہ میں ساری حسرت ختم نہ کر دو، تاکہ یہ حسرت دوبارہ تمہیں عبادت کی طرف کھینچ کر لے آئے۔

شیخ کی ضرورت

لیکن اس مقصد کے لئے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے لئے کیا چیز مفید ہے؟ اس کو کس موقع پر عبادت

سے روک دینا چاہئے اور کس موقع پر عبادت کرنے کی اجازت دینی چاہئے؟ اگر انسان خود اپنی مرضی سے کرتا رہے تو بعض اوقات وہ بھٹک جاتا ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک دم سے عبادت کے جوش میں آگئے، اب رات بھر کھڑے ہو کر نوافل پڑھ رہے ہیں، اور دن بھر میں ایک قرآن شریف ختم کر لیا اور بہت ساری تسبیحات پڑھ لیں، ایک ہفتہ تک یہ جوش برقرار رہا، یہاں تک کہ لوگوں کی انگلیاں اس کی طرف اٹھنے لگیں کہ فلاں صاحب تو اب نمازی عبادت گزار تہجد گزار بن گئے ہیں، ایک ہفتہ کے بعد اب مسجد میں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، جماعت میں بھی حاضر نہیں ہوتے، اب سب جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ اس لئے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو اعتدال میں رکھتا ہے۔

خاموشی سے اپنے اندر تبدیلی لاؤ

اس لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ: ”اپنے اندر تبدیلی اس طرح لاؤ کہ تمہاری طرف امتیاز نہ آئیں۔“ اگر اپنے اندر تبدیلی لانے میں انگلیاں اٹھ گئیں تو یہ فتنہ ہے اور اس میں اندیشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ اپنی سابقہ حالت پر واپس لوٹ جائے گا۔ تبدیلی اس طرح لاؤ جیسے دیکھتے دیکھتے بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اگر بچے کو روزانہ فیٹے سے ناپو کہ آج کتنا بڑا ہوا، کل کتنا بڑا ہوا، اور کتنا فرق واقع ہوا تو فیٹے کے ذریعہ کوئی فرق نہیں معلوم ہوگا، لیکن رفتہ رفتہ وہ جوان ہو جائے گا،

کس دن کتنا بوجھا وہ معلوم نہیں۔ لیکن روز بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ جوان ہو گیا۔ لہذا تہذیبی اس طرح لاؤ کہ انگلیاں نہ اٹھیں، اس لئے کہ انگلیاں اٹھنے سے اس شخص کے تکبر اور عجب میں بے تلا ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔

اتنا معمول بناؤ جس کی پابندی کر سکو

بہر حال، جب اپنا کوئی معمول بناؤ تو ایسا بناؤ جس کی تم پابندی کر سکو، اگرچہ وہ تھوڑا ہو، جوش میں آکر زیادہ معمول نہ بناؤ۔ اس لئے کسی رہبر اور کسی رہنما اور کسی مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ اتنا معمول بناؤ، اس سے زیادہ نہ بناؤ، وہ جانتا ہے کہ تمہارے لئے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ اسی لئے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کئے بغیر، اس کی طرف رجوع کئے بغیر اور اس سے رہنمائی حاصل کئے بغیر عادت اصلاح نہیں ہوتی، اس لئے بار بار اس کی تاکید کی جاتی ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کریں، اور پھر اس کی رہنمائی میں اس راستے پر چلیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



مجلس نمبر ۷۳

معمولات چھوٹے پر

حسرت اور ندامت

جس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی



مشط و ترتیب
محمد عبدالرشید

مبین اسلامک پبلشرز

۱/۱۸۸، یاقوت آباد، کراچی ۱۱

مقام خطاب : جامع مسجد دارالعلوم کراچی
 وقت خطاب : بعد نماز ظہر۔ رمضان المبارک
 اصلاحی مجالس : جلد نمبر ۳
 مجلس نمبر : ۳۷
 صفحات : ۱۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

مجلس نمبر ۳

معمولات چھوٹے پر حسرت اور ندامت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ وَعَلٰی
آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ -

أَمَّا بَعْدُ!

ایک صاحب نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ:
میرا ایک مرض جو کہ سب سے بڑھ کر ہے، وہ کم ہمتی
ہے کہ مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا۔
جواب میں حضرت نے لکھا کہ:

جتنا بھی ہو جائے، وہ بھی بے کئے ہوئے کی ندامت
سے مل کر محروم نہ رہنے دے گا۔

(انفاس عیسیٰ ص ۶۳)

فرائض میں سستی کا علاج

ان صاحب نے اپنا جو مرض لکھا ہے وہ حقیقتاً ہم میں سے تقریباً اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ کام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اور کم ہمتی کا شکوہ رہتا ہے۔ حضرت کا جواب سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کام کرنے کی ہمت نہ ہو سکتا یہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ ایک شخص کو اپنے فرائض و واجبات ادا کرنے ہی کی ہمت نہیں ہے، مثلاً نماز فرض ہے، اب اس فرض کو ادا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ یا مثلاً روزہ فرض ہے، لیکن روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا علاج تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنے ساتھ زبردستی کرے اور زبردستی کر کے اس فرض کو انجام دے، اگرچہ اس کام کو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن زبردستی اپنے آپ کو سمجھنے کر لے جائے۔

گناہوں سے بچنے کا علاج

یہی حال گناہوں سے بچنے کا ہے، جو صریح اور کھلے گناہ ہیں، ان سے بچنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا علاج اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مستحضر کرے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا تصور کرے، اور زبردستی اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائے اور دور کرے۔ لہذا

فرائض و واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب اور گناہوں سے پرہیز کرنے میں ہمت نہیں ہو رہی ہے تو ان کا علاج یہ ہے کہ زبردستی کرے، چاہے جان چلی جائے، چاہے کچھ ہو جائے، میں تو یہ فرض ادا کروں گا اور اس گناہ سے بچوں گا، اس کے علاوہ کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے جو انسان کو گھول کر پلا دیا جائے اور اس کے نتیجے میں فرائض و واجبات خود بخود ادا ہونے لگیں، ہمت تو استعمال کرنی پڑے گی۔ یہ پہلی قسم ہے۔

معمولات کی ادائیگی میں کم ہمتی

دوسری قسم یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو اپنی بساط کی حد تک صرف فرائض و واجبات ادا کرتا ہے، وقت پر نماز ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، گناہوں سے حتی الامکان پرہیز کی کوشش کرتا ہے، البتہ نوافل اور اذکار کی ہمت نہیں ہوتی، جو معمولات مقرر رکھے ہیں ان کی پابندی نہیں ہو پارہی ہے، کسی دن معمول پورا کر لیا، کسی دن چھوٹ گیا، یا اس کا دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ اذکار اور زیادہ نوافل ادا کروں، لیکن اس کے لئے ہمت نہیں ہو پاتی، یا رات کو آخری وقت میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کو دل چاہتا ہے، لیکن آنکھ نہیں کھلتی، نہیں اٹھ پاتا، اس لئے عشاء کی نماز اور وتر کے درمیان چار رکعت تہجد کی نیت سے پڑھنے پر اکتفا کر لیتا ہے۔ یہ سوال ایسا ہی شخص کر رہا ہے کہ میرے اندر کم ہمتی ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، مقصد اس کا یہ ہے نوافل اور ذکر و اذکار زیادہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔

”ندامت“ محروم نہ ہونے دیگی

اس شخص کا جواب دیتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ:
جتنا بھی ہو جائے، وہ بھی بے کئے ہوئے کی ندامت
سے مل کر محروم نہ رہنے دے گا۔

یعنی جتنا بھی نقلی عمل بن پڑا اس کو کر لیا، مثلاً ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ نہ پڑھ
سکا، سو مرتبہ پڑھ لیا، یا جن تسبیحات کا معمول تھا، وہ نہ پڑھ سکا، صرف نماز
کے بعد تسبیح فاطمی پڑھنے پر اکتفا کر لیا، یا مثلاً رات کو تہجد کے لئے نہیں اٹھا
جا رہا ہے، اس لئے عشاء کے بعد چار رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ یہ
شخص جتنا کچھ عمل کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس پر ندامت بھی
ہو رہی ہے کہ افسوس مجھ سے کچھ نہیں بن پڑا ہے۔ میں تو کچھ کر نہیں پا
رہا ہوں، تو اس شخص کا یہ تھوڑا سا عمل بے کئے ہوئے کی ندامت سے مل
کر انشاء اللہ محروم نہیں رہنے دے گا۔

یہ حسرت بڑی نعمت ہے

اس لئے کہ یہ ندامت، یہ پشیمانی، یہ حسرت کہ مجھ سے زیادہ عمل
نہیں ہو پا رہا ہے، یہ بھی بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ندامت اور
حسرت کی بنیاد پر بھی عطا فرمادیتے ہیں۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ
اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حسرت نایاب بھی بڑی دولت ہے، یعنی اس

بات کی حسرت کہ مجھ سے یہ کام نہ ہو سکا۔ یہ ساری باتیں نوافل کے بارے میں ہیں، فرائض میں صرف حسرت سے کام نہیں چلتا جب تک اس فرض کو ادا نہ کر لے، البتہ نوافل میں یہ بات ہے کہ اگر نفل کام کے نہ ہونے کی حسرت ہو رہی ہے کہ کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن مجھ سے یہ عمل نہیں ہو پاتا۔ یہ حسرت بھی بڑی دولت اور بڑی نعمت ہے۔

عذر قوی کے ساتھ حسرت باعث اجر ہے

اگر یہ ”حسرت“ عذر قوی کے ساتھ ہو پھر تو یقیناً یہ ”حسرت“ اصل عمل کے ثواب تک پہنچا دیتی ہے۔ مثلاً یہ حسرت کہ معذوری کی وجہ سے بستر پر پڑا ہوں، بیمار ہوں، بستر سے اٹھ نہیں سکتا، اگر یہ بیماری نہ ہوتی اور میں تندرست ہوتا تو خوب نوافل ادا کرتا، خوب ذکر و اذکار کرتا، ہائے افسوس کہ مجھ سے یہ نوافل ادا نہیں ہو رہے ہیں، چونکہ یہ حسرت عذر کی وجہ سے ہے، اس لئے یقیناً یہ عذر عمل تک پہنچا دے گا، اور اس کو وہی ثواب ملے گا جو تندرستی کی حالت میں کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے میں ملتا۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؓ اور لوہار کا واقعہ

اور ایک صورت یہ ہے کہ نوافل پڑھنے سے عذر تو کوئی نہیں ہے،

البتہ کم ہمتی ہے اور کم ہمتی کی وجہ سے حسرت ہو رہی ہے کہ اگر ہمت ہوتی تو یہ عمل کر لیتا، یہ حسرت کرنے والا بھی انشاء اللہ محروم نہیں رہے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کا معاملہ فرمایا اور بڑے اونچے درجات عطا فرمائے، البتہ مجھے وہ درجہ نہ مل سکا جو درجہ اللہ تعالیٰ نے اس لوہار کو عطا فرمایا جو میرے گھر کے سامنے رہتا تھا، وہ لوہار مجھ سے آگے بڑھ گیا۔

خواب دیکھنے والا شخص جب بیدار ہوا تو اس کو جستجو ہوئی کہ وہ کون لوہار تھا اور کیا عمل کرتا تھا؟ جس کی وجہ سے وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے آگے بڑھ گیا، چنانچہ وہ شخص اس محلے میں گیا اور معلومات کیں، تو پتہ چلا کہ واقعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا اور اس لوہار کا انتقال ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ اس لوہار کے گھر گیا اور اس کی بیوی سے پورا خواب بیان کیا اور اس کے بعد اس سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کونسا ایسا نیک عمل کرتا تھا جس کے نتیجے میں وہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی آگے بڑھ گیا؟

اذان کی آواز پر کام بند

اس کی بیوی نے جواب دیا کہ وہ سارا دن لوہا کو شہرہتا تھا، کوئی خاص نیک عمل تو نہیں کرتا تھا، البتہ دو باتیں اس کے اندر تھیں، ایک یہ کہ جس وقت وہ لوہا پیٹ رہا ہوتا، اس دوران اگر اذان کی آواز کان میں پڑتی تو فوراً کام بند کر کے مسجد کی طرف نماز کے لئے چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ اگر اس نے لوہا پینے کے لئے ہتوڑا سر سے اوپر اٹھایا ہوا ہوتا اور اس وقت اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی تو اتنا گوارہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے ذریعہ ایک ضرب اور لگا دوں، بلکہ اس ہتوڑے کو پیچھے کی طرف پھینک دیتا تھا اور نماز کے لئے چلا جاتا تھا۔ ایک بات تو یہ تھی۔

”حسرت“ نے آگے بڑھا دیا

دوسرے یہ کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک بزرگ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، وہ رات بھر اپنے گھر کی چھت پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے رہتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی لکڑی کھڑی ہے، میرا شوہر ان کو اس طرح رات بھر عبادت کرتے دیکھ کر یہ حسرت کیا کرتا تھا کہ دیکھو یہ حضرت عبداللہ بن مبارک اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں فراغت عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے یہ رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہتے ہیں، اگر ہمیں بھی

فراغت ہوتی تو ہم بھی ان کی طرح رات کو عبادت کیا کرتے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لوہار کو اس حسرت کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مبارکؓ سے آگے بڑھا دیا، اس لئے یہ ”حسرت“ بھی بڑی دولت ہے۔ بہر حال! اگر نوافل اور ذکر و اذکار وغیرہ زیادہ نہ بن پڑیں تو کم از کم دل میں ان کے نہ کرنے کی حسرت ہی پیدا ہو جائے تو پھر وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ اسی لئے حضرت والا نے جواب میں لکھا کہ ”جتنا بھی ہو جائے وہ بھی بے کئے ہوئے کی ندامت سے مل کر محروم نہ رہنے دے گا“ انشاء اللہ تعالیٰ۔

اس جواب سے اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جتنا کچھ ہو سکے کر لیا جائے، پورا نہ سکی ادھورا ہی ہو، کامل کے خیال میں ناقص کو بھی چھوڑا نہ جائے، پھر اس کی تکمیل نہ ہونے کی حسرت سے پورے عمل کا ہی اجر ملنے کی توقع ہے۔

ذکر کے ذریعہ فرحت پیدا نہ ہونے کا شکوہ

ایک اور صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ:
کچھ ذکر و تلاوت تو کرنے لگا ہوں، تہجد بھی بعد عشاء جاری ہے، لیکن ہنوز قلب میں فرحت پیدا نہیں ہوئی۔

(انفاس بیسی، ص ۶۴)

بہت سے لوگوں کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہم ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی فرحت، سرور اور انبساط محسوس نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ عمل بے کار ہے یا کوئی شقاوت قلبی اور سنگ دلی ہے جس کی وجہ سے انبساط نہیں ہو رہا ہے یا خدا جانے کیا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات مایوسی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

یہ توفیق بھی نعمت ہے

اس کے جواب میں حضرت والانے فرمایا کہ:
 ”رحمت“ تو پیدا ہو گئی ہے جو رہبری کر رہی ہے،
 ”فرحت“ خود اس کی لونڈی ہے، اپنی باری میں وہ بھی
 حاضر ہو جائے گی۔

(ایضاً)

یعنی اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی عمل کی توفیق ہے، یہ عمل کرنے کی جو توفیق ہو رہی ہے یہ بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو اور اس پر شکر ادا کرو، یہ رحمت تمہاری رہبری کر رہی ہے، باقی رہی ”فرحت“ وہ تو اس رحمت کی لونڈی ہے، جب اس کی باری آئے گی تو وہ بھی حاضر ہو جائے گی، یہ بھی کیا ضروری ہے کہ وہ بھی حاضر ہو، کوئی ضروری نہیں، اگر ساری عمر فرحت حاصل نہ ہو تو بھی کوئی گھانا نہیں۔

لذت اور کیفیت مقصود نہیں

حضرت حاجی صاحبؒ اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ بات ”دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی“ کی طرح واضح ہو چکی، اب اس میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا، وہ یہ کہ عمل بذات خود مقصود ہے، اس عمل کے ذریعہ حاصل ہونے والی کیفیات مقصود نہیں، مثلاً عمل کے نتیجے میں لذت آ رہی ہے اور مزہ آ رہا ہے، رقت طاری ہو رہی ہے، رونا آ رہا ہے، یہ چیزیں بذات خود مقصود نہیں، اگر حاصل ہو جائیں تو اللہ کی نعمت ہیں، اگر حاصل نہ ہوں تو کوئی گھانا نہیں۔ اصل مقصود عمل ہے، اس لئے عمل کر لو، چاہے وہ تلاوت ہو، نماز ہو، ذکر ہو، یا کوئی اور عمل ہو، بس وہ حاصل ہو جائے۔

عمل درست ہونے کی فکر کریں

بعض لوگ اس سلسلے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ذکر کرتے کرتے اتنے دن ہو گئے لیکن آج تک کبھی رونا نہیں آیا، کبھی رقت طاری نہیں ہوئی، میں تو بڑا شقی القلب ہوں، میں تو بڑا مردود ہوں۔ یاد رکھیے! یہ رونا آنا نہ آنا غیر اختیاری معاملہ ہے، اس پر نجات کا مدار نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو، وہ راستہ درست ہے یا نہیں؟ جو عمل تم کر رہے ہو وہ عمل درست ہے یا نہیں؟

بیت اللہ پر پہلی نظر پڑنے پر رونا نہ آنا

بہت سے لوگوں سے یہ سن رکھا ہے کہ جب بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑتی ہے تو آدمی ہنستا ہے یا روتا ہے، یہ بات لوگوں کے درمیان مشہور ہو چکی ہے۔ اب ایک شخص وہاں پہنچا اور بیت اللہ پر نظر پڑی تو نہ ہنسی آئی اور نہ رونا آیا، اب وہ شخص بہت پریشان ہو رہا ہے کہ میں تو شیطان ہوں، میں تو مردود ہو چکا ہوں، اس لئے کہ مجھے تو نہ ہنسی آئی اور نہ ہی رونا آیا۔ یاد رکھئے! وہاں پر ہنسنے اور رونے کی کوئی حقیقت نہیں، ارے جب وہاں پہنچ گئے اور بیت اللہ شریف پر نگاہ پڑ گئی، اور وہاں پر حاضر ہو کر طواف کرنے کی توفیق ہو گئی تو بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے، چاہے رونا آئے یا نہ آئے، اگر رونا آئے تو نعمت ہے، رونا نہ آئے تب بھی غم کی کوئی بات نہیں، اور اس کی وجہ سے محرومی نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ یہ کیفیات مقصود ہی نہیں، ان کی طرف زیادہ دھیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اصل یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ جو عمل مامور بہ ہے وہ ادا ہو رہا ہے یا نہیں؟

شمرات کا انتظار خود رکاوٹ ہے

حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

إِذَا سَرْتَكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَ تَكَ سَيِّئَتُكَ فَانْتَ مُؤْمِنٌ -

(مسند احمد ج ۵ ص ۲۵۲)

یعنی تیری نیکی تجھے خوش کرے، اور تیری برائی تجھے بری معلوم ہو تو تم مؤمن ہو۔ یہ حدیث سن کر بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں عبادت کرنے کے بعد اس قسم کی علامات نظر آنی چاہئیں، کچھ نشاط حاصل ہونا چاہئے، کچھ خوشی حاصل ہونی چاہئے، لیکن ہمیں تو عبادت کرنے کے بعد اس قسم کی علامات نظر نہیں آتیں۔

اول تو یہ یاد رکھئے کہ یہ نتائج اور ثمرات انتظار کرنے سے نہیں ملتے، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ثمرات کا انتظار بذات خود ایک حجاب اور پردہ ہے، جب تک یہ انتظار لگا رہے گا اس وقت تک یہ حاصل نہیں ہوں گے۔ اس انتظار کی مثال ایسی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ:

صلی الحائل رکعتین و انتظر الوحي -

کہ ایک مرتبہ جو لاپے نے دو رکعتیں پڑھ لیں اور اب انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرے اوپر کب وحی نازل ہوتی ہے۔ اس لئے ان ثمرات کا انتظار نہ ہونا چاہئے، کیونکہ یہ عمل بذات خود مقصود ہے، جب آپ نے نماز پڑھ لی تو یہی عمل ہے اور یہی مقصود ہے اور یہی نتیجہ اور ثمرہ ہے، نماز کے ادا ہو جانے کے بعد آگے اور کسی چیز کی انتظار کی ضرورت نہیں۔

دوسرے یہ کہ اس حدیث شریف میں جس خوشی اور برے لگنے کا تذکرہ ہے، اس سے مراد عقلی طور پر کسی اچھے عمل کو اچھا سمجھنا اور برے عمل کو برا سمجھنا ہے، طبعی اثر بھی پیدا ہو جائے تو بہت بہتر ہے اور اگر طبعی

اثر محسوس نہ ہو تو بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

خود نماز ہی مقصود ہے

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَإِذَا قَرَأْتَ فَأَنْصَبْ وَالِی رَّبِّكَ فَارْغَبْ۔

(الم نشرح، آیت ۸)

یعنی جب تم دوسرے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو تھکو، یعنی اپنے آپ کو عبادت میں تھکاؤ، لمبا قیام کرو، لمبا رکوع کرو، لمبا سجدہ کرو۔ اس آیت میں نماز کے اندر تھکنے کو بذات خود مقصود قرار دیا، یہی عمل ہے اور یہی مقصود و مطلوب ہے، اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں اس کو بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر مایوسی کی کیفیت پیدا نہ ہو، جب عمل کی توفیق ہوگئی تو یہ توفیق خود اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، بس اب اور کسی چیز کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔

یہاں تو عین منزل ہے ”تھکن سے چور ہو جانا“

اسی مضمون کو ادا کرنے کے لئے کسی زمانے میں میں نے ایک شعر کہا تھا، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کو بڑا پسند فرمایا تھا، وہ یہ کہ:

قدم ہیں راہِ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی؟

یہاں تو عین منزل ہے ”تھکن سے چور ہو جانا“

یعنی جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صبح راستے پر جا رہے ہیں، صراطِ مستقیم پر قدم ہے، تو اب یہ ہوس کہ ہمیں کشف ہونا چاہئے، الہام ہونا چاہئے، نور نظر آنا چاہئے اور کیفیات ہونی چاہئیں، یہ سب باتیں بیکار ہیں۔ ارے یہاں تو عمل کرنا اور عمل کے اندر اپنے آپ کو تھکانا ہی مقصود ہے، اس لئے فرحت حاصل ہونے کی زیادہ فکر میں نہ پڑنا چاہئے، اس لئے کہ بعض اوقات یہ فرحت، یہ نشاط، یہ حلاوت الٹا نقصان دہ ہو جاتی ہے، مثلاً نماز میں بڑا کیف اور سرور حاصل ہو رہا ہے، مزہ آرہا ہے، فرحت حاصل ہو رہی ہے تو اس کے نتیجے میں دماغ کے اندر کچھ گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بھی کچھ ہو گیا ہوں اور میں بھی کسی مقام تک پہنچ گیا ہوں، اور اس گھمنڈ کے آتے ہی وہ عمل اکارت چلا گیا۔ اس لئے بعض اوقات اس سرور اور کیفیت کے پیدا ہونے سے نقصان ہو جاتا ہے۔

وہ شخص قابل مبارک باد ہے

بخلاف اس شخص کے جو عمل کو مشقت سے انجام دے رہا ہے، اس میں تھک رہا ہے، اور اس کو عمل کے اندر کوئی سرور اور مزہ نہیں آرہا ہے، تو انشاء اللہ وہ شخص گھمنڈ پیدا ہونے کے خطرہ سے بچ جائے گا۔ اسی لئے حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ:

جس شخص کو ساری عمر کبھی نماز میں مزہ نہ آیا ہو لیکن نماز پڑھتا رہا ہو، میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں، اس لئے کہ مزہ نہ آنے کے باوجود پڑھنا یہ اس کے اخلاص اور للہیت کی دلیل ہے، اس میں کوئی نفسانی خواہش شامل نہیں ہے۔

اس لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ فرحت حاصل ہونے کی فکر میں زیادہ نہ پڑو، بس جو کام کر رہے ہو اس میں لگے رہو، فرحت تو عمل کی لوٹدی ہے، جب اس کے آنے کا وقت آئے گا تو اس وقت میں وہ بھی حاضر ہو جائے گی، اور بغیر انتظار کے آجائے گی اور اگر نہ آئی تب بھی کوئی مضائقہ نہیں، اس لئے کہ مقصود عمل ہے، وہ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ



مجلس نمبر ۳۸

ذکر الہی کے چند آداب

جلس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی



منہج و ترقیہ
ترویج دانش

میعن اسلامک پبلشرز

۱/۱۸۸، یاقوت آباد، کراچی ۱۱

مقام خطاب : جامع مسجد دارالعلوم کراچی
 وقت خطاب : بعد نماز ظہر۔ رمضان المبارک
 اصلاحی مجالس : جلد نمبر ۳
 مجلس نمبر : ۳۸
 صفحات : ۱۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

مجلس نمبر ۳۸

ذکر الہی کے چند آداب

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ - وَعَلٰی
آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ -

أَمَّا بَعْدُ!

باوضو ذکر کرنا

حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ:

باوضو ذکر کرنے سے برکت زیادہ ضرور ہوتی ہے لیکن
وضو رکھنا ضروری نہیں، اس لئے کہ اگر کسی کا وضو نہ

نخیر تا ہوا در بار بار وضو کرنے سے تکلیف ہو تو تیمم کر لیا
 کرے، مگر اس تیمم سے نماز و مس مہصحف جائز نہیں۔
 (انفاس یعنی ص ۶۳)

اس ملفوظ میں کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ
 مسئلہ یہ ہے کہ بغیر وضو کے ذکر کرنا جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لئے
 کوئی شرط اور کوئی قید نہیں لگائی، اس کو اتنا آسان کر دیا کہ انسان جیب بھی اور
 جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتا چاہے تو اس کو نام لینے کی اجازت ہے،
 ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی اجازت ہی نہ ہوتی، وضو
 کر کے کیا، اگر اپنے منہ کو مشک و عنبر سے بھی دھو لیتے تب بھی اجازت نہ
 ہوتی۔

ہزار بار بشویم وھنم بمشک و گلاب
 ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی ست

یعنی اگر میں ہزار بار بھی اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھولوں، پھر بھی آپ کا
 نام لینا بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے، لیکن ان کا کرم یہ ہے کہ
 نام لینے کی نہ صرف اجازت دیدی بلکہ اس کے ساتھ کوئی قید و شرط بھی نہیں
 لگائی، نہ مسجد میں آنے کی قید، نہ مصلے پر بیٹھنے کی قید، نہ وضو کرنا ضروری، نہ
 غسل کرنا ضروری، حتیٰ کہ اگر انسان ناپائی کی حالت میں ہے یا کوئی عورت حیض و
 نفاس کی حالت میں ہے تو اگرچہ نماز پڑھنے اور تلاوت کرنے کی اس حالت میں
 اجازت نہیں ہے لیکن ذکر کی اس حالت میں بھی اجازت ہے۔ قرآن کریم

میں فرمایا:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

(سورہ آل عمران، آیت ۱۹۱)

یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، اور بستر پر لیٹے ہونے کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تم کھڑے ہو یا لیٹے ہو یا بیٹھے ہو، جس حالت میں بھی ہو، ہمیں پکار لو، اتنا آسان فرمادیا۔

لہذا ذکر کے لئے وضو کرنا کوئی شرط تو نہیں لیکن محبت کا تقاضہ تو ہے، جب انسان اس ذات کا ذکر کرے تو با وضو ہو کر کرے، اس لئے کہ با وضو ہو کر ذکر کرنے میں برکت زیادہ ہوگی، اس میں انوار زیادہ ہوں گے، اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، اس لئے حتی الامکان وضو کر کے ذکر کرے۔

ذکر کیلئے تیمم بھی کر سکتے ہیں

ہاں البتہ اگر کوئی عذر ہے اور اس عذر کی وجہ سے وضو نہیں ٹھیرتا، تو ایسے شخص کے لئے حضرت فرماتے ہیں کہ وضو نہ ٹھیرنے کی وجہ سے ذکر کو نہ چھوڑے بلکہ ذکر کرتا رہے، البتہ چونکہ با وضو ذکر کرنے سے انوار و برکات زیادہ ہوتے ہیں، اس لئے جب وضو ٹوٹ جائے دوبارہ کر لے، پھر ٹوٹ جائے تو پھر وضو کر لے، اور اگر بار بار وضو کرنے میں تکلیف ہوتی ہو تو ذکر کرنے کے لئے تیمم کر لے، لیکن ایسے تیمم سے نماز پڑھنا اور قرآن شریف چھونا جائز نہیں ہوگا۔

کن اعمال میں تیمم کرنا جائز ہے

یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ اعمال جن کو بلا وضو اکرنا جائز ہے، لیکن ادب کے خیال سے وہ اعمال وضو کے ساتھ کئے جاتے ہیں، ان اعمال میں اگر انسان کسی وجہ سے بجائے وضو کے تیمم کر لے تو انشاء اللہ وضو کے بجائے تیمم بھی کافی ہو جائے گا۔ مثلاً آپ درسی کتاب کا سبق پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کے علاوہ دوسری کتاب کا سبق بلا وضو پڑھنا اصلاً جائز ہے اور ان کتابوں کو چھونا بھی جائز ہے، لیکن ادب کا تقاضہ یہ ہے کہ تمام درسی کتابوں کا سبق بھی وضو کے ساتھ پڑھے، اور اگر کسی وقت وضو کا موقع نہیں ہے تو اس کے لئے تیمم کر لے، تو یہ تیمم بھی انشاء اللہ کافی ہو جائے گا۔ البتہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اس تیمم سے نماز پڑھ لوں، تو یاد رکھئے کہ اس تیمم سے نماز نہیں ہوگی۔ یہی معاملہ ذکر کا ہے کہ اگر بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے اور وضو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو ذکر کرنے کے لئے تیمم کر لے، اس لئے کہ بار بار تیمم کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہے، البتہ اس تیمم سے نماز پڑھنا اور قرآن شریف چھونا جائز نہیں ہوگا۔

نماز سے جی چرانے کا علاج

ایک شخص نے حضرت وللا کو لکھا کہ:

نماز پڑھنے میں جی بہت جان چراتا ہے۔

یعنی دل نہیں مانتا اور دل نماز پڑھنا نہیں چاہتا۔ جواب میں حضرت والا نے لکھا کہ:

اس کا تو کچھ حرج نہیں مگر جی چرانے پر عمل نہ کیا جائے،
نفس کی مخالفت کر کے نماز کو اہتمام سے پڑھا جائے اور
کچھ نوافل بھی معمول کر لیا جائے۔ جتنے میں کسی ضروری
کام کا حرج نہ ہو۔

(انفاس عیسیٰ ص ۶۳)

یعنی جی چرانے میں تو کوئی حرج نہیں، وہ تو اسی کام کے لئے ہے کہ ہر اچھے عمل
سے جان چرائے، اور غلط کاموں کی طرف انسان کو مائل کرے، اس لئے اس
میں تو کچھ حرج نہیں، باقی اس کے جی چرانے پر عمل نہ کیا جائے، بلکہ نفس کی
مخالفت کر کے نماز کو اہتمام سے پڑھے، جی لگنے کی زیادہ فکر میں نہ پڑے۔

ذکر کے وقت اللہ تعالیٰ کا تصور کرے

ایک ملفوظ میں حضرت والا نے فرمایا کہ:

تسبیح کے وقت اولیٰ تو تصور مذکور کا ہے یعنی حق تعالیٰ
شانہ کا، لیکن اگر یہ خیال نہ ہے تو پھر ذکر کا اس طرح سے
کہ یہ قلب سے ادا ہو رہا ہے۔

(انفاس عیسیٰ ص ۶۳)

اس ملفوظ میں ذکر کا طریقہ بیان فرمایا کہ جب انسان ذکر کرے تو اصل

تو یہ ہے کہ ذکر کے وقت اس ذات کا تصور کرے جس کا ذکر کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا، جیسا کہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا نَكَتَ تَرَاهُ

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَانْهَ يَرَاكَ

(بخاری شریف، کتاب الایمان، باب سوال جبرئیل)

یعنی اس طرح ذکر کرے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور نہ آسکے تو کم از کم یہ تصور جمائے کہ وہ ذات جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے یعنی اللہ جل شانہ، اس کا تصور جمائے، جب ”اللہ، اللہ“ کہہ رہے ہو تو اس وقت ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، جب ”سبحان اللہ“ کہہ رہے ہو تو توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، جب ”الحمد للہ“ کہہ رہے ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور ہو۔

ابتداء ذکر کے الفاظ کا تصور بھی کر سکتے ہیں

لیکن ابتداء میں ہم جیسے مبتدیوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا یہ تصور جمانا بسا اوقات مشکل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تصور کیسے جم سکتا ہے جب کہ وہ ذات ”لا یحد ولا یتصور“ ہے، وہ ذات تو تصور میں آ ہی نہیں سکتی، اس لئے شروع شروع میں ذکر کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اس کی قدرت کا اور اس کی عظمت کا تصور بھی نہیں جتنا۔ اس لئے حضرت والا فرما رہے ہیں کہ

شروع میں مبتدی کو چاہئے کہ وہ ”ذکر“ ہی کا تصور کرے، یعنی جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے، ان الفاظ کی طرف دھیان لگائے۔ مثلاً جب وہ ”اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ“ زبان سے نکال رہا ہے تو اس کو یہ پتہ ہو کہ میں یہ الفاظ زبان سے نکال رہا ہوں۔ جب ابتداء میں وہ ”ذکر کے الفاظ کا تصور قائم کرے گا تو رفتہ رفتہ بالآخر انشاء اللہ ”مذکور“ یعنی اللہ تعالیٰ کا تصور بھی قائم ہو جائے گا۔

ذکر کے وقت دوسرے تصورات

بعض صوفیاء کرام نے بعض اذکار کے ساتھ علیحدہ علیحدہ تصورات قائم فرمائے ہیں، جیسے دوازدہ تسبیح میں بزرگوں سے منقول ہے کہ ”إلا اللہ“ کی چار تسبیحات اس طرح پڑھے کہ پہلی تسبیح میں ”لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللّٰهُ“ کا تصور کرے، اور دوسری تسبیح میں ”لا محبوب إلا اللہ“ کا تصور کرے۔ تیسری تسبیح میں ”لا مقصود إلا اللہ“ کا تصور کرے، اور چوتھی تسبیح میں ”لا موجود إلا اللہ“ کا تصور کرے۔ لیکن ان کے بارے میں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن ان تصورات کا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، ان تصورات کے بغیر بھی تسبیح پڑھ لی جائے تب بھی کافی ہے، اصل مقصود یہ ہے کہ جب انسان ذکر کرے تو ذرا دھیان سے ذکر کرے، اس سے انشاء اللہ رفتہ رفتہ مقصود حاصل ہو جائے گا۔

ذکر میں لذت نہ آنا زیادہ نافع ہے

حضرت والا نے ارشاد فرمایا:

ذکر میں لطف و لذت کا حاصل ہونا ایک نعمت ہے، اور نہ ہونا دوسری نعمت ہے، جس کا نام ”مجاہدہ“ ہے، یہ دوسری نعمت ”انفع“ ہے گو ”الذ“ نہ ہو۔

(انفاس عینی ص ۶۵)

یعنی اگر ذکر کے دوران آدمی کو لذت حاصل ہو رہی ہے تو یہ نعمت ہے، اگرچہ مقصود نہیں ہے، اور اگر لذت حاصل نہیں ہو رہی ہے تو یہ دوسری نعمت ہے، اس کا نام ”مجاہدہ“ ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، بلکہ یہ نعمت زیادہ نافع ہے، اس لئے کہ جب مزہ نہیں آرہا ہے اور اس کے باوجود ذکر کر رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ مشقت اٹھا رہا ہے، اس لئے اس کو ذکر کا ثواب الگ مل رہا ہے اور ”مجاہدہ“ کا فائدہ الگ ہو رہا ہے، کیونکہ نفس کے تقاضے کے خلاف کوئی کام کرنا ”مجاہدہ“ ہے، اور نفس کے تقاضے کے خلاف کام کرنے کی عادت ڈالنے سے انسان کو اپنے نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے۔ لہذا جب مزے کے بغیر ذکر کرنے میں یہ تین فائدے ہیں تو یہ ذکر زیادہ نافع ہے، لہذا ایسے ذکر کو بیکار نہیں سمجھنا چاہئے، ذکر میں مزہ اور لطف آئے تو نعمت، نہ آئے تو نعمت۔

ذکر کے فوائد و چیزوں پر موقوف ہیں

حضرت والا نے ارشاد فرمایا:

ذکر کا اثر موقوف ہے تفلیل کلام، تفلیل اختلاط مع الامام و
 قلت التفات الی التعلقات پر۔ ان چیزوں کے حصول کے
 لئے مواظب کا مطالعہ اور مثنوی کا مطالعہ (گو سمجھ میں نہ
 آئے) کرنا چاہئے۔

(انفاس عیسیٰ ص ۶۵)

حضرت فرما رہے ہیں کہ ”ذکر“ کے جو فوائد اور ثمرات بزرگ بتاتے
 ہیں، وہ اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب انسان ”ذکر“ کے ساتھ ساتھ دو کام
 اور کرے، ایک تفلیل کلام، یعنی گفتگو کم کرے اور فضول باتوں سے اجتناب
 کرے، ضرورت کے مطابق بولے، زیادہ نہ بولے۔ اور بعض مرتبہ اسی سے
 نفس کی آزاردوش کا علاج ہو جاتا ہے۔

بولنے پر پابندی کے ذریعہ ایک صاحب کا علاج

مجھے یاد ہے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب
 آیا کرتے تھے، جو بہت بولتے تھے، جب باتیں شروع کر دیں تو اب رکنے کا نام
 نہیں ہے، ایک سوال کے بعد دوسرا سوال کر لیا، پھر تیسرا سوال کر لیا، مسلسل
 بولتے رہتے تھے۔ حضرت والد صاحب چونکہ بہت متواضع اور مسکین آدمی
 تھے، اس لئے بہت زیادہ روک ٹوک نہیں کرتے تھے، چنانچہ ان صاحب کی
 باتوں کو برداشت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان صاحب نے حضرت والد صاحب
 سے بیعت اور اصلاحی تعلق قائم کرنے کی درخواست کر دی کہ حضرت! میرا

دل چاہتا ہے کہ آپ سے اصلاحی تعلق قائم کر لوں اور آپ سے بیعت ہو جاؤں، اور آپ مجھے کچھ ذکر اور نوافل بتادیا کریں۔ حضرت والد صاحب نے ان سے فرمایا کہ اگر تم تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن تمہارے لئے نفل اور ذکر وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر میں کیا کروں؟ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی زبان پر تالہ ڈال لو، یہ تمہاری زبان جو ہر وقت قینچی کی طرح چلتی رہتی ہے، اس کو بند کرو، اور ضرورت کے مطابق بات کرو، ضرورت سے زائد ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالو، یہی تمہارا علاج ہے، یہی تمہارا وظیفہ ہے، اور یہی تمہاری تسبیح ہے۔ بس ان صاحب پر یہ پابندی لگنی تھی کہ ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس لئے کہ جو شخص ساری عمر زیادہ بولنے کا عادی رہا ہو، اس پر ایک دم سے بریک لگا دیا جائے تو اس کے لئے یہ بڑا سخت مجاہدہ ہوگا۔ چنانچہ اس شخص کیلئے تنہا کم بولنے کا یہی ”مجاہدہ“ کام کر گیا۔ لہذا اس راہ میں ”تقلیل کلام“ کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ۔

(ترمذی، کتاب الزہد، باب نمبر ۱۱)

یعنی انسان کے اسلام کے حُسن میں سے ہے کہ وہ لایعنی اور فضول باتوں سے بچے، بس بوقت ضرورت بولے۔ فرمایا کہ جب تک ذکر کے ساتھ ”تقلیل کلام“ کی صفت نہیں ہوگی، اس وقت تک دنیا میں ذکر کے فوائد کا حقہ حاصل نہیں ہوں گے، البتہ آخرت کا اجر انشاء اللہ مل جائے گا۔

تعلقات کم کرو

دوسری چیز ہے ”تقلیل اختلاط مع الأنام“ یعنی لوگوں سے تعلقات کم کرے۔ لوگوں سے بہت زیادہ تعلقات بڑھانا، لوگوں کے ساتھ مجلس آرائی کرنا، ہر وقت ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جو آج کل ایک مستقل فن بن گیا ہے، جس کو ”پبلک ریلیشن“ کہا جاتا ہے، اس فن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگوں سے کس طرح زیادہ سے زیادہ تعلقات بڑھائے جائیں؟ لیکن اصلاح اعمال و اخلاق کی اس راہ میں لوگوں سے تعلقات بڑھانا مضر ہے، بالخصوص ضبط نفس کی مشق کے ابتدائی دور میں، ہاں! اگر کسی سے تعلق ہو تو وہ صرف اللہ کے لئے ہو، گھر والوں سے تعلق ہو تو وہ اللہ کے لئے ہو، دوستوں سے تعلق ہو تو وہ اللہ کے لئے ہو، عام مسلمانوں سے تعلق ہو تو وہ اللہ کے لئے ہو، باقی اپنے ذاتی مفاد کے لئے لوگوں سے زیادہ تعلق بڑھانے سے اور ان سے میل جول رکھنے سے ذکر کے فوائد کا حقد حاصل نہیں ہوتے۔

آنکھ، کان، زبان بند کر لو

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

چشم بند و گوش بند و لب بند

گردن بند و بینی نور حق بر من بند

یعنی تین کام کر لو، ایک یہ کہ آنکھ کو بند کر لو، کس چیز سے بند کر لو؟ ناجائز جگہ پر

نظر پڑنے سے بند کر لو۔ اور دوسرے یہ کہ کان کو بند کر لو، کس چیز سے؟ ناجائز، حرام اور فضول باتیں سننے سے بند کر لو۔ اور تیسرے یہ کہ ہونٹ یعنی زبان کو بند کر لو، کس چیز سے؟ فضول اور ناجائز باتیں کرنے سے بند کر لو۔ اس کے بعد بھی اگر نور حق نظر نہ آئے تو میرے اوپر ہنس دینا، یعنی ان تین چیزوں کے بند کرنے کے نتیجے میں لازماً نور حق نظر آئے گا۔ بہر حال! ذکر کے جو فوائد ہیں، مثلاً نور حق کا نظر آنا، یہ اس لئے حاصل نہ ہوا کہ ذکر کے ساتھ جو کام کرنا چاہئے تھا یعنی ”تقلیل کلام، اور ”تقلیل اختلاط مع الانام“ وہ نہیں ہوا، اس کے نتیجے میں ذکر کے فوائد بھی حاصل نہ ہوئے۔ اس لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر ذکر کے فوائد حاصل کرنے ہیں تو ذکر کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

تعلقات کی طرف التفات زیادہ نہ ہو

تیسری چیز ہے ”قلت التفات الی التعلقات“ یعنی ایک طرف تو لوگوں سے تعلقات ہی کم رکھو، اور اگر کسی سے تعلق ہو بھی تو اس تعلق کی طرف التفات زیادہ نہ ہو، مثلاً یہ نہ سوچے کہ اس کام کو کرنے سے فلاں ناراض ہو جائے گا، یا فلاں راضی ہو جائے گا، اس فکر میں مت پڑو، ارے مخلوق کے راضی ہونے یا ناراض ہونے کی فکر میں مت پڑو، فکر اس کی کرو کہ خالق راضی ہو جائے۔ اگر یہ تین باتیں حاصل ہو جائیں تو پھر انشاء اللہ ذکر کے فوائد حاصل ہو جائیں گے۔

ان تین چیزوں کو حاصل کرنے کا طریقہ

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تین چیزیں، یعنی ”تقلیل کلام“ (کم گوئی) اور ”تقلیل اختلاط مع الانام“ (کم آمیزی) اور ”قلت النفات الی التعلقات“ (تعلقات سے قدرے بے توجہی) یہ سب چیزیں کس طرح حاصل ہو سکیں؟ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ مواعظ کا مطالعہ کیا جائے اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ”مثنوی“ کا مطالعہ کیا جائے، ساتھ میں یہ بھی فرمادیا کہ چاہے وہ ”مثنوی“ سمجھ میں بھی نہ آئے، تب بھی اس کا مطالعہ کیا جائے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے کلام میں تاثیر رکھ دیتے ہیں۔

”مثنوی“ کلام وہی ہے

کہا جاتا ہے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر و شاعری سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ خواجہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ! آپ نے میرے دل پر جو علوم وارد فرمائے ہیں، اس کے لئے کوئی زبان عطا فرمائیے، چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید ہوئے، اور پھر ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے ”مثنوی“ جاری فرمادی۔ حالانکہ اس سے پہلے کبھی شعر نہیں کہے تھے لیکن شیخ کی دعا کے بعد ان کی زبان پر یہ اشعار جاری ہو گئے اور مثنوی کے دفتر کے دفتر لکھ دئے، اور جب اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوا شعر آتا بند ہو گئے،

یہاں تک کہ آخر میں انہوں نے ایک حکایت لکھنی شروع کی تھی، وہ حکایت بھی پوری نہیں ہوئی، اور درمیان میں ہی شعر آنا بند ہو گئے، اور اس حکایت کو ادھر وہی چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر کئی صدیوں کے بعد ہندوستان کے مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے یہ اشعار جاری فرما دیئے۔ چنانچہ اسی جگہ سے آگے انہوں نے اشعار کہنا شروع کئے، اور اس آخری دفتر کو پورا فرمایا، اسی وجہ سے وہ ”خاتم مثنوی“ کہلاتے ہیں۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو ان کی زبان پر جاری فرمایا تو جاری ہو گیا اور جب بند کیا تو بند ہو گیا۔ بہر حال یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہیں، اس میں ایک خاص برکت اور اثر ہے، یہ تاثیر بھی اللہ تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں۔ اس لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مثنوی کا مطالعہ کرو، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ اس کو پڑھنا فائدے سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ



مجلس نمبر ۳۹

ملکہ عیادداشت کا مطلب

جلس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی



منشیہ و ترتیب
موجودہ لائبریری

مبین اسلامک پبلشرز

۱۸۸/۱ ریاست آباد کراچی

مقام خطاب : جامع مسجد دارالعلوم کراچی

وقت خطاب : بعد نماز ظہر۔ رمضان المبارک

اصلاحی مجالس: جلد نمبر ۳

مجلس نمبر : ۲۹

صفحات : ۲۰۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۞

مجلس نمبر ۳۹

”ملکہ یادداشت“ کا مطلب

اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،

والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى

آله واصحابه اجمعين، اما بعد!

نماز کے اندر نہ ذکر لسانی چاہئے نہ ذکر قلبی

ایک ملفوظ میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا:

نماز میں نہ ذکر لسانی کرے اور نہ قلبی، خود توجہ

الی الصلاة اس میں مطلوب ہے۔ ”قلب جاری ہونا“ کوئی

اصطلاح فن کی نہیں، مطلوب ذکر میں ”ملکہ یادداشت“

ہے، خواہ اس کا کچھ ہی نام ہو۔

(انفاس میں ص ۶۶)

یعنی نماز کے اندر جو ذکر ہے اور جو قرأت ہے، بس نماز کے اندر اسی کو ادا کرنا چاہئے، اس کے علاوہ نماز کے اندر کسی اور ذکر کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ گنجائش ہے۔ اور نماز کے جو ارکان ایسے ہیں جن میں انسان خاموش رہتا ہے، مثلاً اگر کوئی شخص امام کے پیچھے سڑی نماز پڑھ رہا ہے جیسے ظہر کی نماز کی نیت باندھ کر امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تو اب صرف امام کو قرأت کرنی ہے اور مقتدی کو خاموش رہنا ہے۔ ایسے موقع کے بارے میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ اس موقع پر ذکر لسانی اور ذکر قلبی کی ضرورت نہیں، بلکہ اس موقع پر نماز کی طرف متوجہ رہے، مثلاً جب ظہر کی نماز کی نیت امام کے پیچھے باندھ لی تو اب امام کے پیچھے قرأت کرنا تو جائز نہیں، لیکن اس وقت دل دل میں سورۃ کا تصور کر لے، البتہ اگر اس وقت کسی ذکر کا تھوڑا بہت تصور آجائے تب بھی کوئی مضائقہ نہیں، مثلاً ”سبحان اللہ“ کا تصور آجائے، یا ”الحمد للہ“ کا تصور آجائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن باقاعدہ اس تصور کا اہتمام نہ کرے، بلکہ اس وقت صرف نماز کی طرف توجہ رکھے، اس لئے کہ نماز کے اندر خود ”توجہ الی الصلوٰۃ“ مطلوب ہے۔ لہذا اس مطلوب کو حاصل کرنا چاہئے۔

قلب جاری ہونا

”قلب جاری ہونا کوئی اصطلاح فن کی نہیں“ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا قلب جاری ہو گیا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اصطلاح فن کی نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے یہ اصطلاح بنا لی ہے، اور خدا جانے وہ لوگ قلب جاری ہونے کا کیا مطلب لیتے ہیں، اصل چیز جو مطلوب ہے وہ ”ملکہ یادداشت“ ہے اور ذکر میں مطلوب بھی یہی ملکہ یادداشت ہے، اب اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں۔

”ملکہ یادداشت“ کا مطلب

”ملکہ یادداشت“ کا مطلب یہ ہے کہ دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور اکثر و بیشتر اوقات دل اللہ کا ذکر کرے یا اس کی طرف متوجہ رہے، اور اس کے نتیجے میں غیر اللہ سے توجہ ہٹتی ہوئی ہو، اسی کو ”ملکہ یادداشت“ کہا جاتا ہے، اسی کے نتیجے میں بالآخر ”نسبت مع اللہ“ حاصل ہو جاتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو ”نسبت“ حاصل ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کثرت ذکر اور دوام طاعت حاصل ہو گئی، یعنی وہ شخص کثرت سے ذکر کرتا ہے، اور اکثر اوقات اس کو اللہ جل شانہ کا دھیان رہتا ہے اور طاعت پر مداومت کئے ہوئے ہے، جو فرائض اور واجبات اور سنتیں ہیں ان کو صحیح طور پر بجالاتا ہے اور گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، یہ سب چیزیں ”نسبت مع

اللہ“ حاصل ہونے کی علامتیں ہیں۔

بہر حال! ذکر کا اصل مقصد ”ملکہ یادداشت“ کا حصول ہے کہ انسان کام کچھ بھی کر رہا ہو، لیکن دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہو۔ اس وقت یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ۔

دست بکار دل بیار

ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز حاصل نہ ہو، بلکہ جب اللہ تعالیٰ عطا فرمادیتے ہیں تو حاصل ہو جاتی ہے۔

خالق اور مخلوق دونوں سے تعلق پر تعجب

میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی قدس اللہ سرہ سے سنا، وہ اپنے شیخ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد نقل کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ پہلے مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہوتا تھا کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ جل شانہ کے ساتھ جس طرح ہر آن اور ہر وقت براہ راست تعلق قائم تھا، وحی نازل ہو رہی ہے، اور ہر وقت اللہ جل شانہ کا دھیان اور خیال متحضر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی تجلیات ہر وقت آپ پر ہو رہی ہیں، مجھے پہلے اس پر تعجب ہوتا تھا کہ جس شخص کی یہ کیفیت ہو وہ کیسے دنیا والوں سے بات کر لیتا ہے؟ وہ کیسے ازواج مطہرات کے ساتھ خوش طبعی کی باتیں کر لیتا ہے؟ وہ کیسے بچوں کے ساتھ کھیل لیتا ہے؟ ایسی

ذات کو تو دوسری مخلوقات کی طرف دھیان نہیں ہونا چاہئے۔

پھر فرمایا کہ لیکن اب الحمد للہ معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں کام جمع ہو سکتے ہیں، اس لئے کہ اب خود میری کیفیت یہ ہے کہ الحمد للہ ہر وقت اللہ جل شانہ کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہے اور اس کے باوجود دنیا والوں سے تعلق بھی قائم ہے، دنیا والوں سے ملنا جلنا بھی ہو رہا ہے، اب دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ شخص بیوی بچوں کے ساتھ ہنس بول رہا ہے، دوست و احباب کے ساتھ خوش طبعی کی باتیں کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور یہ کیفیت اس کو حاصل ہے کہ:

دست بکار دل بیار

بہر حال اسی کا نام ”ملکہ یادداشت“ ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا تصور اور دھیان رہے، اسی کے ساتھ تعلق رہے، اور اگر دوسروں کے ساتھ تعلق ہو تو وہ مجباً اور ضمناً ہو اور اسی ذات کے واسطے سے ہو۔

مبتدی اور منتہی کی حالت یکساں ہوتی ہے

ایک جگہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اچھی بات ارشاد فرمائی: فرمایا کہ مبتدی اور منتہی دونوں کی ظاہری حالت یکساں ہوتی ہے، یعنی جس شخص نے ابھی اس راستے میں قدم رکھا ہے، اس کی ظاہری حالت، اور وہ شخص جو راستہ قطع کر کے اعلیٰ مقامات پر پہنچ چکا، اس کی ظاہری حالت دیکھنے میں برابر ہوتی ہے، مبتدی بھی بیوی بچوں سے ہنس بول رہا ہے، اور منتہی بھی

بیوی بچوں کے ساتھ ہنس بول رہا ہے، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنی بیوی کو گیارہ عورتوں کا قصہ سنا رہے ہیں کہ گیارہ عورتیں تھیں، جنہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہر عورت اپنے اپنے شوہر کا حال بیان کرے اور کوئی بات نہ چھپائے، اور ہم آپ بھی بیوی بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں۔ اب دیکھنے میں مبتدی اور مثنوی کی حالت یکساں ہے، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

درمیان والے کی حالت

اور جو راستے کے درمیان میں ہوتے ہیں، ان کی حالت دونوں سے مختلف ہوتی ہے، ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اگر ذکر کے اندر مشغول ہیں اور ان کے صاحبزادے ان سے ملنے کے لئے گئے اور جا کر کہا ”السلام علیکم“ اب والد صاحب اس وقت حالت استغراق میں ہیں، اب وہ اپنے صاحبزادے سے پوچھ رہے ہیں کہ تو کون ہے؟ کیا نام ہے؟ گویا کہ صاحبزادے کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔

حالانکہ ان کی اولاد ہے، لیکن اس کو نہیں پہچان رہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے تصور میں اس درجہ استغراق اور اس درجہ محو ہیں کہ اپنی اولاد بھی پہچانی نہیں جا رہی ہے۔ اب بظاہر یہ استغراق والا شخص بہت اعلیٰ درجے پر نظر آتا ہے کہ وہ اس درجہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مستغرق ہے کہ دوسرے کو پہچان بھی نہیں رہا ہے۔

آپ کا بچوں سے پیار کرنا

دوسری طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آگئے، آپ منبر سے اترے اور جا کر ان کو گود میں اٹھالیا اور ان کو پیار کر رہے ہیں۔

تیرے دل سے رحمت نکال دی

ایک اعرابی تھے جن کا نام اقرع بن حابس تھا، انہوں نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کو پیار کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میرے دس بچے ہیں، میں نے آج تک کسی بچے کو پیار نہیں کیا اور آپ پیار کر رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت نکال دی جس کے نتیجے میں تو بچوں سے پیار نہیں کرتا تو میں کیا کروں؟ مطلب یہ تھا کہ رحمت کا تقاضہ یہ ہے کہ بچوں سے پیار کیا جائے۔ بہر حال! مبتدی اور متمہی دونوں کی حالت بظاہر دیکھنے میں یکساں اور اونی معلوم ہوتی ہے، اور جو درمیان میں ہے اور عالم استغراق میں ہے اس کی حالت اعلیٰ معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔

تینوں حالتوں کی مثال

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں حالتوں کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک دریا ہے، ایک آدمی دریا کے اس کنارے دریا پار

کرنے کے ارادے سے کھڑا ہے، اور دوسرا شخص دریا کے اُس کنارے کھڑا ہے اور دریا پار کر چکا ہے، اور تیسرا شخص دریا کے بیچ میں موجوں سے کھیل رہا ہے اور تیر رہا ہے اور ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ اب بظاہر دیکھنے میں یہ شخص جو اس کنارے پر کھڑا ہے اور وہ شخص جو اُس کنارے پر کھڑا ہے دونوں برابر اور یکساں نظر آ رہے ہیں، اس لئے کہ یہ بھی خشکی میں ہے اور وہ بھی خشکی میں ہے، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لئے کہ جو شخص دریا کے اس کنارے پر ہے، اس نے تو ابھی تک دریا میں قدم رکھا ہی نہیں ہے، اور جو شخص دوسرے کنارے پر ہے وہ تو دریا کی موجوں کو چیرتے ہوئے اور ان سے کھیلتے ہوئے دوسرے کنارے تک پہنچ چکا ہے۔ البتہ وہاں پہنچنے کے بعد اس کی ظاہری حالت اس شخص کی طرح ہو گئی جو اس کنارے پر کھڑا ہے، لیکن وہ سارے مراحل سے گزر چکا ہے۔

اور جو درمیان میں ہے اور موجوں سے کھیل رہا ہے، وہ دونوں کے مقابلے میں بڑا زبردست نظر آ رہا ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ مبتدی اور منتہی دونوں کی حالت دیکھنے میں ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے، وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ مبتدی بھی بیوی بچوں سے ہنس بول رہا ہے اور منتہی بھی بیوی بچوں سے ہنس بول رہا ہے، لیکن مبتدی اپنے نفس کے حظ کے خاطر ہنس بول رہا ہے اور لذت حاصل کرنے کے لئے ہنس بول رہا ہے، اسلئے کہ ان سے براہ راست تعلق قائم ہے۔ منتہی جو بیوی بچوں کے ساتھ ہنس بول رہا ہے، وہ اللہ جل شانہ کے تعلق کی وجہ سے ہنس بول رہا ہے، اصل

تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، ان حقوق کی ادائیگی کے لئے ان کے ساتھ ہنس بول رہا ہے۔ اور ہمارا اور آپ کا تعلق بیوی بچوں سے براہ راست ہے، ان سے محبت اور تعلق ہے، ان سے لذت اندوزی اور لطف اندوزی کا جذبہ ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کام کر رہے ہیں۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے اور بچوں سے اور دوسروں سے جو تعلق قائم فرما رہے ہیں، وہ سارا تعلق اللہ جل شانہ کے واسطے سے ہے۔

ایک بزرگ کا جنت سے اعراض کرنا

ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے سامنے جنت پیش کی گئی، جنت کے باغات اور محلات کی سیر کرائی گئی اور ان سے کہا گیا کہ یہ تمہارا مقام ہے جو مرنے کے بعد تمہیں ملنے والا ہے۔ ان بزرگ نے جنت دیکھ کر منہ دوسری طرف موڑ لیا اور یہ شعر پڑھا۔

إِن كَانَ مَنزِلِي بِالْحَبِّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ
مَا لَذَّ رَأَيْتُ فَقَدْ ضَيَعْتُ أَيَّامِي

یعنی اگر میری محبت کا صلہ یہی باغات اور محلات، پھل، فروٹ، یہ درخت، یہ سبزہ وغیرہ ہیں، جو آپ مجھے دکھا رہے ہیں، تو میں نے اپنی عمر ضائع کر دی۔ مجھے یہ چیزیں نہیں چاہئیں، اس لئے کہ میری محبت کا مقصود یہ جنت نہیں

تھی، یہ جنت کے محلات اور باغات نہیں تھے، بلکہ میری محبت کا مقصود تو آپ تھے، آپ کا دیدار تھا، آپ کی رضامندی تھی، آپ کا وصال اور آپ کا قرب تھا۔ اس طرح جنت سے اعراض کیا۔ ایک حالت یہ ہے۔

حضور ﷺ کا جنت طلب کرنا

دوسری طرف حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے کہ جب دعا مانگ رہے ہیں تو فرما رہے ہیں:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ

اے اللہ! میں آپ کی رضامندی اور جنت چاہتا ہوں۔

اب وہ بزرگ تو جنت سے منہ موڑ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ جنت نہیں چاہئے، مجھے تو آپ کی رضا چاہئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ رہے ہیں۔

ہمارے اور حضور ﷺ کے جنت کی طلب میں فرق

یہ فرق درحقیقت مبتدی اور منتہی اور درمیان والے کا ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت مانگا کرتے تھے، البتہ جو درمیان میں ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں جنت نہیں چاہئے۔ لیکن ہمارے جنت مانگنے میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت مانگنے میں فرق ہے، ہم تو اس لئے جنت مانگ رہے ہیں کہ وہاں پر نفس کی

خواہشات پوری ہوں گی، بڑے مزے کے کھانے ہوں گے، پھل ہوں گے، رہنے کے لئے محلات ہوں گے، باغات ہوں گے، بڑی خوش منظر جگہ ہوگی، ان چیزوں کی وجہ سے ہم جنت مانگ رہے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ذاتی لذتوں کی وجہ سے جنت نہیں مانگ رہے تھے، بلکہ جنت اس لئے مانگ رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے، باری تعالیٰ کی خوشنودی کا ایک نشان اور مظہر ہے، اس لئے جنت مانگ رہے تھے۔

نگاہ دینے والے ہاتھ پر تھی

دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت مانگنے سے اس جنت کی ذات مقصود نہیں تھی بلکہ جس ذات کی طرف سے وہ جنت مل رہی تھی وہ ذات عزیز تھی۔ میں اُس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں وہ یہ کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جب عید کا دن آتا تو ہم سب بھائی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضرت والد صاحب ہم سب کو عیدی دیا کرتے تھے، سب اولاد برسر روزگار، کھاتی پیتی، ایسی کہ دوسروں کو بھی عیدی دے، لیکن عید کے روز جب والد صاحب کے پاس سب جمع ہوتے تو خوب مچل مچل کر عیدی مانگا کرتے تھے، والد صاحب فرماتے کہ اس مرتبہ بیس روپے لے لو، ہم کہتے کہ نہیں اب گرانی کا زمانہ آ گیا ہے، اب کے بار پچیس روپے لیں گے یا تیس روپے لیں گے، اب پانچ دس روپے پر جھگڑا ہوتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا، حضرت والد صاحب فرماتے

کہ تم سب چور ڈاکو جمع ہو گئے ہو اور مجھے لوٹ لو گے، ہم کہتے کہ نہیں، ہم تو پچیس روپے ہی لیں گے۔

حالانکہ اس وقت ہم میں سے کوئی بھائی ایسا نہیں تھا جو ذرا دیر میں پچیس روپے خرچ نہ کر سکتا ہو۔ اگر کوئی مانگنے آئے تو دن میں دس مرتبہ پچیس روپے نکال کر دیدیں۔ لیکن والد صاحب سے پچیس روپے وصول کرنے کے لئے لڑ رہے ہیں، محل رہے ہیں، اگر نہیں مل رہے ہیں تو باقاعدہ اصرار کر کے لے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا یہ پچیس روپے مقصود تھے کہ اگر یہ پچیس روپے مل جائیں گے تو بڑا مزہ آئے گا اور اس سے فلاں چیز خرید کر کھائیں گے؟ اس لئے پچیس روپے لے رہے ہیں۔ بلکہ بات دراصل یہ تھی کہ وہ پچیس روپے بذات خود مقصود نہیں تھے، بلکہ وہ پچیس روپے اس لئے عزیز تھے کہ وہ دینے والا ہاتھ عزیز تھا، کہ اس ہاتھ سے جو چیز ملے گی وہ عظیم الشان ہوگی، اس لئے نگاہ اس روپے پر نہیں، بلکہ نگاہ اس دینے والے ہاتھ پر تھی، اس لئے محل محل کر مانگا کرتے تھے۔

جنتِ رضائے خداوندی کی ایک علامت ہے

بہر حال! جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ

اے اللہ! میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔

یہ جنت کا مانگنا، جنت کی ذاتی لذتوں کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ دینے والی ذات کی

وجہ سے تھا کہ یا اللہ! یہ جنت چونکہ آپ کی رضا کا نشان ہے، یہ آپ کی رضا کی علامت ہے، اور آپ نے جنت کو اپنی رضا کا مظہر بنایا ہے، اس لئے ہم محتاج بن کر جنت مانگ رہے ہیں، ہم اس سے استغناء ظاہر نہیں کر سکتے۔

چل چل کر مانگو

بندگی کا تقاضہ یہی ہے کہ جب کہا جا رہا ہے کہ ہم سے مانگو تو پھر چل چل کر مانگو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

چوں طمع خواہد زمن سلطان دین
خاک بر فرق قناعت بعد ازیں

جب وہ کہہ رہے ہیں کہ طمع اور لالچ کرو، کیا اس وقت بھی تم استغناء اور بے نیازی کا مظاہرہ کرو گے؟ ارے اس وقت قناعت کا طریقہ اختیار نہیں کرنا بلکہ اس وقت تو محتاج بن کر مانگو۔

حضرت ایوبؑ کا سونے کی تتلیاں جمع کرنا

حضرت ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے، غسل کے دوران آسمان سے سونے کی تتلیاں گرنی شروع ہو گئیں، اب حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کرنا چھوڑ دیا اور تتلیاں پکڑنی شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم سونے کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کیا اب تک دنیا کی حرص دل میں ہے؟ سبحان اللہ! اس وقت انہوں نے کیا خوب صورت

جواب دیا، فرمایا کہ:

اللَّهُمَّ لَا غِنَىٰ لِي بِغَيْرِكَ

اے اللہ! جب آپ نازل فرما رہے ہیں تو آپ کی نازل کی ہوئی برکت سے مجھے کبھی استغناء نہیں ہو سکتا، میں تو آپ کی اس برکت کا محتاج ہوں، جب آپ نازل فرما رہے ہیں تو میں تو محتاج بن کر اس کے پیچھے دوڑوں گا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو عبدیت کا تقاضہ یہ ہے کہ محتاج بن کر اس کو لے لو۔

ان کی طرف سے روزانہ اعلان ہو رہے ہیں

ان کی طرف سے تو روزانہ رات کو یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں؟ ہے کوئی بتلائے مصیبت جس کو میں عافیت دوں؟ ان کی طرف سے یہ اعلان ہو رہے ہیں اور آپ جواب میں فرما رہے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں، میں تو مستغنی ہوں۔ معاذ اللہ۔ ارے آپ کس ذات سے استغناء ظاہر کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ خود دیں گے تو لے لوں گا، خود سے نہیں مانگوں گا، ارے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مانگو تو پھر مانگنا ہی ضروری ہے، یہی عبدیت کا تقاضہ ہے۔

ان کی رحمت سے استغناء نہ ہو

اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ -

چیزیکہ بے طلب رسد آن داوہ خدا است

اورا تو رد مکن کہ فرستادہ خدا است

جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز بے طلب کے عطا فرمادیں تو اس کو رد نہ کرو، اس لئے کہ وہ چیز اللہ کی بھیجی ہوئی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے استغناء نہیں ہوا کرتا، اور یہ استغناء عبدیت کا تقاضہ نہیں ہے۔

وہ بزرگ مغلوب الحال تھے

لہذا وہ بزرگ جنہوں نے جنت کو دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا، ان کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مغلوب الحال تھے، ان کے بارے میں بھی کوئی گستاخی کا کلمہ نہیں نکالنا چاہئے، اور غلبہ حال میں یہ جملہ انہوں نے کہہ دیا، ورنہ بندے کا کام یہ نہیں ہے، بندے کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ -

یعنی اے اللہ! مجھے آپ کی رضا چاہئے اور جنت چاہئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے جنت مانگئے۔

بہر حال! حضرت والا نے اس ملفوظ میں فرمایا کہ ذکر میں اصل مقصود

”ملکہ یادداشت“ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کا اس طرح دل میں جم جانا اور بیٹھ جانا کہ چلتے پھرتے ہر وقت ان کی یاد اور ان کی فکر دل میں موجود رہے۔

چار چیزوں کی عادت ڈال لو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ”ملکہ یادداشت“ ویسے تو بڑے بڑے مجاہدات اور ریاضتوں کے بعد حاصل ہوتا ہے، لیکن صوفیاء کرام کی اصطلاح میں ایک ”طریق القلندر“ ہوتا ہے، اس کے ذریعہ چپکے چپکے بیٹھے بیٹھے یہ ”ملکہ یادداشت“ حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ ”طریق القلندر“ یہ ہے کہ چار چیزوں کی عادت ڈال لو:

۱۔ موافق طبیعت امور پر شکر

جو بھی موافق طبیعت کوئی کام سامنے آئے اس پر شکر ادا کرو، مثلاً ہوا کا جھونکا آیا اور اچھا لگا، کہو:

الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر۔

گھر میں داخل ہوئے، بیوی بچوں کو بعافیت پایا، کہو:

اللهم لك الحمد ولك الشكر

دستر خوان پر بیٹھے، کھانا سامنے آیا، کہو:

اللهم لك الحمد ولك الشكر

بچہ کھیلتا ہوا اچھا معلوم ہوا، کہو:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

ہر وقت چلتے پھرتے اٹختے بیٹھتے اس کی رٹ لگاؤ۔

۲۔ خلاف طبیعت کاموں پر صبر

جو کام طبیعت کے خلاف سامنے آئے، اس پر صبر کرو، مثلاً بجلی چلی

گئی، ناگواری ہوئی، کہو:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

گری لگ رہی ہے، کہو:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

کوئی تکلیف پہنچی، کہو:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

پاؤں میں کانٹا چبھا، کہو:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

اس کی عادت ڈالو۔

۳۔ ماضی کے گناہوں پر استغفار

جب ماضی میں کئے ہوئے کسی گناہ کا یا کسی برائی کا خیال آئے تو اس پر

استغفار کرو۔ کہو:

استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔

گزشتہ کل مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا، کہو:

استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔

بجری نماز نہیں پڑھی، کہو:

استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔

فلاں وقت جھوٹ بولا تھا، کہو:

استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔

۴۔ مستقبل کے اندیشوں پر استعاذہ

مستقبل میں کسی اندیشے اور خطرے کا خیال آئے تو استعاذہ کرو اور کہو:

اللہم انی اعوذ بك من شره

مال خرید لیا اور اب تجارت میں نقصان ہونے کا اندیشہ اور خیال آ رہا ہے، کہو:

اللہم انی اعوذ بك من شره

کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، کہو:

اللہم انی اعوذ بك من شره

یا اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔

ہر وقت اللہ سے مانگتے رہو

لہذا یہ چار کام کرتے رہو، شکر، صبر، استغفار، استعاذہ۔ اور پانچواں کام

یہ ہے کہ دعا کرتے رہو اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ میاں سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہو، مثلاً آپ کسی سے ملاقات کے لئے جارہے ہیں، کہو: یا اللہ! میں فلاں آدمی سے ملاقات کے لئے جا رہا ہوں، یا اللہ! وہ مل جائے۔ گرمی لگ رہی ہے، کہو: یا اللہ! گرمی لگ رہی ہے، اس کو دور فرمادے۔ یا اللہ! پیاس لگ رہی ہے، پانی عطا فرمادے۔ ہر چیز اللہ سے مانگو، سبق پڑھنے جارہے ہو، کہو: یا اللہ! سبق کو آسان فرمادے، سبق سمجھ میں آجائے اور استاذ صحیح وقت پر آجائیں۔ سبق پڑھانے جارہے ہو تو کہو: یا اللہ! اچھے طریقے سے سبق پڑھانے کی توفیق عطا فرمادے۔ یا اللہ! صحیح بات دل میں ڈال دے، تاکہ طلبہ کو اچھی طرح سمجھا دوں۔ جو کام کرنے جارہے ہو، جاتے جاتے دعا کرتے چلے جاؤ۔ دعا کی کثرت کرو۔

چپکے سے دعا کر لیتا ہوں

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی شخص آکر یہ کہتا ہے کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے یا ایک بات پوچھنی ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی تخلف نہیں ہوتا کہ جیسے ہی کسی نے کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے فوراً اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کر لیتا ہوں کہ یا اللہ! معلوم نہیں کیا مسئلہ پوچھے گا، یا اللہ! یہ جو سوال کرے اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دے۔ یہ ہے ”ملکہ یادداشت“ لہذا چھوٹی چھوٹی بات پر چھوٹے چھوٹے کاموں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کرو۔

ملکہ یادداشت حاصل کرنے کا چکلہ

یہ ”ملکہ یادداشت“ حاصل کرنے کا چکلہ ہے، اس پر عمل کرنے سے اور اس کی پابندی کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمادیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ”ملکہ یادداشت“ حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کہاں کرو گے وہ مجاہدات اور ریاضتیں جیسے پہلے لوگ کیا کرتے تھے، اس ملکہ یادداشت کو حاصل کرنے کے لئے کیا کچھ پاپڑیلینے پڑتے تھے، مہینوں اور سالوں خانقاہوں میں جا کر رہتے تھے، اور مشائخ ان سے مشقت والے کام کروایا کرتے تھے، اب تمہارے اندر مشقت برداشت کرنے کی طاقت کہاں؟ اگر کسی شیخ نے ذرا سی مشقت ڈال دی تو اسی وقت بھاگ کھڑے ہو گے، اب وہ طاقت اور وہ قوی نہیں رہے، اس لئے کہاں وہ مجاہدات اور ریاضتیں کرو گے۔

لیکن اس چکلے پر عمل کر لو، یعنی شکر ادا کرو، صبر کرو، استغفار کرو، اور استعاذہ کرو، اور دعا کی کثرت کرو اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعا کی رٹ لگاؤ اور اس کی عادت کر لو، تو اس کے نتیجے میں ”ملکہ یادداشت“ کا مقصود فی الجملہ حاصل ہونے لگتا ہے، اس سے پھر اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مجلس نمبر ۲۰

اللہ کا راستہ کمزوروں کیلئے بھی ہے

جلس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی



ضبط و ترتیب
محمد سعید انصاری

میمن اسلامک پبلشرز

۱/۱۸۸، ریاست آباد، کراچی ۱۱

مقام خطاب : جامع مسجد دارالعلوم کراچی
 وقت خطاب : بعد نماز ظہر۔ رمضان المبارک
 اصلاحی مجالس : جلد نمبر ۳
 مجلس نمبر : ۳۰
 صفحات : ۱۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

مجلس نمبر ۴۰

اللہ تعالیٰ کا راستہ

کمزوروں کے لئے بھی ہے

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،
والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى
آله وأصحابه أجمعين، أما بعد!

حضرت والائے ارشاد فرمایا کہ:

اگر کوئی رمضان شریف تک کے لئے اپنے معمولات
بڑھالے اور آئندہ دوام کی امید نہ ہو تو یہ خلاف دوام
نہیں، کیونکہ اول ہی سے دوام کا قصد نہیں، حدیث
شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے
اعمال رمضان میں زیادہ ہو جاتے تھے۔

(انفاس مینی ص ۶۶)

معمولات کی پابندی ضروری ہے

صوفیاء کرام، بزرگان دین اور علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان جو معمول بنائے اس کی پابندی کرے، تھوڑا عمل ہو لیکن اس کو پابندی اور دوام کے ساتھ کیا جائے، اس میں زیادہ ثواب ہے نسبت اس عمل کے جو زیادہ ہو لیکن گنڈے دار ہو کہ کبھی کر لیا اور کبھی چھوڑ دیا۔ اس لئے بزرگوں کی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ معمول جتنا کم سے کم رکھے، اتنا ہی بہتر ہے، اس لئے کہ اس کی پابندی انسان آسانی سے کر سکتا ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ ایک دم سے بہت زیادہ معمولات اپنے اوپر لازم نہ کرو، مختصر کرو، لیکن اس کی پابندی کرو، تمام بزرگان دین اس کی بہت تاکید فرمایا کرتے تھے۔

حدیث سے استدلال

اس تاکید فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی ایک نقلی کام شروع کرے اور پھر چھوڑ دے، تو یہ طریقہ بے برکتی کا سبب ہوتا ہے، اور تقریباً ناجائز ہے۔ اس کی اصل ایک حدیث ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا:

يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل

فترك قيام الليل۔

(صحیح بخاری، کتاب الحج، باب ما یکرہ من ترک قیام اللیل)

اے عبد اللہ! تم فلاں شخص کی طرح مت ہونا جو رات کو

تہجد پڑھا کرتا تھا، پھر بعد میں اس نے تہجد پڑھنا چھوڑ

دیا۔

اس حدیث میں اس کی ممانعت فرمائی کہ آدمی نقلی کام شروع کر کے

اس کو چھوڑ دے۔

نوافل شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتے ہیں

آپ نے فقہ میں پڑھا ہو گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی نقلی عبادت جب تک شروع نہیں کی، اس وقت تک وہ واجب نہیں، اور اس کے ترک کرنے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن جب شروع کر دی تو اب اس کی تکمیل واجب ہے۔ مثلاً آپ نوافل پڑھنا چاہ رہے ہیں، اگر ان نوافل کو نہ پڑھیں تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے ”اللہ اکبر“ کہہ کر دو رکعت نفل کی نیت باندھ لی تو اب دو رکعتوں کو پورا کرنا واجب ہے، ان کو چھوڑنا جائز نہیں، اگر ان کو بلا عذر توڑے گا تو گناہ ہوگا، اور اگر کسی عذر سے توڑے گا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کی قضا دونوں صورتوں میں واجب ہوگی، حالانکہ وہ نقلی عبادت تھی۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک نقلی عبادت شروع کرنے کے بعد اس کی تکمیل واجب ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک معمولی شروع کرنے کے بعد اس کی پابندی بھی واجب ہو جاتی ہے، پھر اس معمول کو ترک کرنا جائز نہیں ہوتا۔

معمولات کی پابندی تو بڑا مشکل ہے

البتہ چھوڑنے کا مطلب بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے، اس میں بھی بہت سے لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی سخت پریشانی کی بات ہے کہ اگر نفلی عبادت شروع کر دی اور کسی دن وہ چھوٹ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چھوٹنے سے گناہ ہو اور یہ پابندی کے خلاف ہو، اس پریشانی کا حل بھی حضرت والانے ہی بیان فرمادیا، کسی اور جگہ نظر سے نہیں گزرا۔

معمول ترک کر دینے کا صحیح مطلب

حضرت والانے فرمایا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ کسی معمول کو شروع کرنے کے بعد ترک مت کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچانا بھی کسی وقت وہ معمول ترک نہ ہو، اس لئے کہ اچانا اور کبھی کبھار وہ معمول چھوٹ جائے تو وہ ترک میں داخل نہیں، بلکہ ”ترک“ کا مطلب یہ ہے کہ انسان آئندہ ہمیشہ کے لئے اس معمول پر عمل نہ کرنے کا قصد کر لے، کیونکہ جب وہ کام معمول میں داخل کیا تھا، اس وقت یہ ارادہ کیا تھا کہ آئندہ ہمیشہ یہ کام کروں گا، اب اس کا ترک اس طرح ہو گا کہ آدمی یہ قصد کر لے کہ اب آئندہ یہ معمول چھوڑتا ہوں، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ تب یہ ”ترک“ میں داخل ہو گا اور اس حدیث کا مصداق ہو گا جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ:

لا تکن مثل فلان، کان يقوم من اللیل فترك۔

اور اس وقت ترک کا وبال آئے گا۔ لیکن اگر ایک شخص نے معمول بنایا اور پھر کسی دن کمزوری کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے یا غفلت کے سبب وہ معمول چھوٹ گیا تو وہ ترک میں داخل نہیں، انشاء اللہ، اس کے چھوڑنے پر وبال نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ چلو آج یہ معمول رہ گیا کل کو یہ معمول ادا کر لوں گا، لہذا یہ معمول کے ترک میں داخل نہیں ہے۔ حضرت والا نے یہ بات ارشاد فرما کر ہم جیسے کمزوروں کے لئے معاملہ آسان فرمادیا، ورنہ معمول چھوٹ جانے سے بڑا ڈر لگتا تھا۔

رمضان میں معمولات بڑھانے پر اندیشہ

بہر حال! صوفیاء کرام نے اور بزرگان دین نے جب یہ فرمایا ہے کہ جو معمول تم نے بنایا ہے اس کی پابندی کرو۔ تو اس پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رمضان المبارک میں زیادہ عبادت کرنے کو دل بھی چاہتا ہے اور موقع بھی ہوتا ہے اور کمنے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر اس عبادت کو صرف رمضان کے اندر کیا اور رمضان کے بعد اس کو جاری نہ رکھ سکے تو کہیں اس ترک والی حدیث کے مصداق میں شامل نہ ہو جائیں اور اس کی وجہ سے ترک کی بے برکتی نہ ہو جائے۔

صرف رمضان میں اس پر عمل کروں گا

حضرت والا اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر رمضان میں معمولات کے اندر کچھ اضافہ کر لیا ہے، مثلاً رمضان میں عام دنوں کے مقابلے میں نوافل زیادہ پڑھ رہے ہو یا تلاوت زیادہ کر رہے ہو، یا عام دنوں سے زیادہ ذکر کر رہے ہو، یا عام دنوں سے زیادہ تسبیحات پڑھ رہے ہو، تو عام دنوں میں اس معمول پر برقرار نہ رہنے میں کچھ حرج نہیں۔ رمضان میں اس معمول پر عمل کرتے وقت دل میں یہ سوچ لو کہ میں صرف رمضان کی حد تک اس پر عمل کر رہا ہوں، دوام کا قصد نہیں ہے۔ جب دوام کا قصد نہیں تو وہ کام معمول میں شامل نہیں، اور جب معمول میں شامل نہیں تو اگر آئندہ اس پر عمل جاری نہ رکھ سکے تو انشاء اللہ ترک کی بے برکتی حاصل نہیں ہوگی، اس لئے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔

حدیث سے استدلال

پھر حضرت والا چونکہ ہر بات کی دلیل بھی دیتے ہیں، اس لئے اس کی دلیل بھی بیان فرمادی کہ حدیث شریفہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في

العشر الأوخر ما لا يجتهد في غيره -

(صحیح مسلم، کتاب الاضغاف، باب الاجتهاد فی العشر الاخر)

یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت کے اندر اتنی محنت فرمایا کرتے تھے کہ عام دنوں میں اتنی محنت نہیں فرماتے تھے، رمضان میں ہمیشہ آپ کی عبادت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اور عشرہ اخیرہ کے بارے میں تو ایک حدیث شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل
العشر شد متزره وأحیی ليله، وأيقظ أهله۔
(صحیح بخاری، کتاب فضل لیلۃ القدر، باب العمل فی العشر الاواخر)
یعنی رمضان المبارک میں آپ ﷺ اپنی ازار (عبادت
کے لئے) کس لیتے تھے اور رات کا احیا فرماتے اور گھر
والوں کو جگاتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ خاص رمضان المبارک کے زمانے میں اگر کوئی
شخص اپنے کچھ معمولات بڑھالے جو عام دنوں میں وہ معمولات میں داخل
نہیں ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ ذہن میں یہ رہے کہ میں صرف
رمضان کی حد تک یہ معمولات کر رہا ہوں، دوام مقصود نہیں۔

کمزور کا تھوڑا عمل بھی کافی ہے

آگے ایک ملفوظ میں حضرت والائے ارشاد فرمایا:
قوی کے عمل کثیر میں جو اثر ہے ضعیف کے عمل قلیل

میں وہی اثر ہے، ضعیف کو اسی عملِ قلیل سے بھی انشاء
اللہ مقصود میں کامیابی ہو جاتی ہے۔

(انفاس عینی ص ۶۶)

ایک آدمی بڑا قوی ہے، ہٹا کٹا صحت مند ہے، وہ زیادہ عمل کرتا ہے، جبکہ
دوسرا شخص بہت کمزور و بڈلا پتلا ہے، اس سے زیادہ عمل نہیں ہو پاتا، اس لئے وہ
تھوڑے عمل ہی پر اکتفا کر لیتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ
قوی کے عمل کثیر میں جو اثر ہے ضعیف کے عمل قلیل میں وہی اثر ہے، ضعیف
کو اس عمل قلیل ہی سے انشاء اللہ مقصود میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ بندہ
کتنا بھی عمل کر لے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس
لئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کثرت اور قلت کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اصل چیز
”اخلاص اور للّٰحیث“ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمُ

اَحْسَنُ عَمَلًا ۝

(سورۃ ملک آیت ۲)

یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو اس لئے پیدا فرمایا تاکہ
تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ
تعالیٰ نے ”اَحْسَنُ عَمَلًا“ فرمایا ”اَحْسَنُ عَمَلًا“ نہیں فرمایا، کہ تم میں سے
کون زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ کس کا عمل اچھا ہے، یعنی اخلاص کس
کے عمل میں زیادہ ہے۔ لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے، للّٰحیث

کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور طلبِ رضا کی خاطر عمل کر رہا ہے، لیکن ضعیف اور کمزور ہونے کی وجہ سے تھوڑا عمل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی نواز دیں گے۔

حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات کمزور کی حسرتِ نایافتِ اصل عمل سے بڑھ جاتی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو تہجد پڑھنے کے لئے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہوتے، تو ان کے بارے میں پڑوسیوں کا بیان یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے چھت پر ایک لکڑی کھڑی ہے، جیسے لکڑی کے اندر کوئی حس اور حرکت نہیں ہوتی، ایسی ہی ان کی حالت ہوتی تھی۔

جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ جو اب میں حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے کرم اور رحمت کا معاملہ فرمایا، اور بڑے اونچے درجات عطا فرمائے، لیکن ہمارے گھر کے سامنے جو لوہار رہتا تھا، اس کو جو درجہ ملا، وہ درجہ ہمیں نصیب نہ ہوا۔

جس شخص نے وہ خواب دیکھا تھا جب وہ بیدار ہوا تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ حضرت عبد اللہ بن مبارک جو اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفسر، فقیہ اور

صوفی بزرگ تھے، وہ پیچھے رہ گئے، اور وہ لوہار جو ایک معمولی درجے کا مسلمان تھا، ان سے آگے نکل گیا، جا کر معلوم کرنا چاہئے کہ وہ لوہار ایسا کونسا عمل کرتا تھا جس کے نتیجے میں وہ حضرت عبد اللہ بن مبارکؒ سے آگے نکل گیا۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کونسا خاص عمل کرتا تھا جس کے نتیجے میں وہ حضرت عبد اللہ بن مبارکؒ سے بھی آگے بڑھ گیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کا کوئی خاص عمل تو مجھے معلوم نہیں، نہ وہ زیادہ نواقل پڑھتا تھا، نہ زیادہ تسبیحات پڑھتا تھا۔

عبادت کی حسرت

البتہ اس کے اندر دو باتیں تھیں: ایک یہ کہ کبھی کبھار وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ یہ ہمارے گھر کے سامنے اتنے بڑے بزرگ حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں اور یہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فراغت عطا فرمائی ہے، معاش کی کوئی فکر نہیں ہے، اس لئے ساری رات عبادت کرتے ہیں، کتنے نیک اور مقرب بندے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس معاش کی فکر سے بے نیاز کر دیں تو ہم بھی رات کو کچھ عبادت کر لیا کریں۔ ایک تو یہ حسرت ظاہر کرتا تھا۔

احترام اذان

دوسرے یہ کہ وہ سارا دن لوہا پیتا رہتا تھا، لیکن لوہا پینے کے دوران جب اذان کی آواز کان میں پڑتی تو اگر اس وقت اس نے اپنا ہتھوڑا مارنے کے

لئے سر کے اوپر اٹھایا ہوا ہوتا، تو اذان کی آواز سننے کے بعد یہ گوارہ نہیں کرتا تھا کہ ایک ضرب اور لگا دے، بلکہ اس ہتوڑے کو پھینک کر نماز کی تیاری میں لگ جاتا، بس یہ دو باتیں تھیں اور کوئی خاص نیک عمل نہیں تھا۔ اس شخص نے کہا کہ بس ان باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا کہ تم عبد اللہ بن مبارک کے مقام تک پہنچنے کی حسرت کر رہے ہو، چلو ہم تمہیں ان سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ بہر حال! اسی لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوی کا عمل کثیر اور ضعیف کا عمل قلیل بعض اوقات دونوں برابر ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ضعیف کا عمل قلیل اس سے آگے بڑھ جاتا ہے۔

حسرت نایافت بڑی دولت ہے

اس لئے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حسرت نایافت بھی زبردست چیز ہے اور بہت بڑی دولت ہے۔ انسان یہ حسرت ہی کر لے کہ میں ان جیسی عبادت نہیں کر سکتا، میں کہاں اور وہ کہاں، اگر کسی اللہ والے کو دیکھ کر دل میں یہ حسرت ہی آجائے تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حسرت پر ہی نواز دے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف طاقت وروں کے ہیں، ضعیفوں کے نہیں، یا اللہ تعالیٰ صرف تندرستوں کے ہیں، بیماروں کے نہیں، یا اللہ میاں صرف جوانوں کے ہیں، بوڑھوں کے نہیں۔ ارے اللہ میاں تو ہم جیسے کمزوروں کے بھی ہیں، سب کے اللہ میاں ہیں، لہذا اگر کوئی کمزور ہے تو بندگی کے ساتھ اور شکستگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ

کے سامنے اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہی پیش کر دے اور اللہ میاں سے کہہ دے کہ
:اے اللہ! میں تو یہ حقیر پونجی لے کر آیا ہوں، آپ ہی اس کا پورا بدلہ دیجئے۔
اور اللہ میاں سے یہ کہہ دے کہ:

وما جهد المقل الا الدموع۔

یہ ”جهد المقل“ ہی پیش کر دے اور اپنی بے بسی کے آنسو ہی ٹپکادے اور یہ
کہے:

اللَّهُمَّ هَذَا الْجِهْدُ وَعَلَيْكَ التَّكْلَانِ۔

جو کچھ عمل بن پڑا وہ تو حاضر ہے، باقی بھروسہ تو آپ کی ذات پر ہے اور آپ
کی عطا پر ہے۔ ارے آدمی اپنے عمل کے نقص کو دیکھے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی
وسعت کو دیکھے۔

اپنا مراقبہ چھوڑو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ
یہ جو تم ہر وقت اپنا مراقبہ کرتے رہتے ہو کہ میں ایسا میں ویسا اور میرا عمل ایسا،
کب تک تم اپنا مراقبہ کرتے رہو گے، اپنا مراقبہ چھوڑو اور ان کی رحمت کا
مراقبہ کرو کہ ان کی رحمت کس کس طرح سے انسان کو ڈھانپ لیتی ہے۔

حضرت مفتی صاحبؒ کی صاف گوئی

میرے دادا حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت

تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور ان کے خاص مریدین میں سے تھے۔ آج بھی میرے پاس حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خطوط محفوظ ہیں جو میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام ہیں۔ جب میرے والد صاحب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو گئے تو میرے دادا نے ان سے فرمایا کہ اب تمہیں کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا چاہئے، چنانچہ میرے دادا میرے والد صاحب کو لے کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھانہ بھون حاضر ہوئے، اور جا کر والد صاحب نے صاف صاف کہہ دیا کہ حضرت! ارادہ تو حضرت شیخ الہند (رحمۃ اللہ علیہ) سے بیعت ہونے کا ہے لیکن چونکہ وہ سفر میں ہیں اور نیک کام میں تاخیر کرنے کو دل نہیں مانتا، اس لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی تعارض تو ہے نہیں، حضرت شیخ الہند (رحمۃ اللہ علیہ) جب واپس آجائیں تو ان سے بیعت ہو جانا، کام ابھی شروع کرو۔

اللہ کا راستہ قوی ضعیف سب کے لئے ہے

میرے والد صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت! کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہوئے اور ان سے بیعت کی درخواست کرتے ہوئے اور اصلاحی تعلق قائم کرتے ہوئے یہ ڈر لگتا ہے کہ میں بہت کمزور ہوں اور مجھ سے یہ بہت زیادہ مجاہدات اور ریاضتیں اور

عبادات نہیں بن پڑتیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا! وہ بھائی واہ! آپ نے تو عجیب بات فرمائی، کیا اللہ میاں صرف اتویاء کے ہیں، ضعفاء کے نہیں؟ کیا اللہ میاں تک پہنچنا صرف اتویاء کا کام ہے، ضعفاء کا کام نہیں؟ ہم آپ کو اتنا کام بتائیں گے جتنا آپ آرام سے کر سکیں گے، ہر ایک کو ایک ہی نسخہ نہیں دیا جاتا، بلکہ ہر ایک مریض کے لئے نسخے الگ الگ ہوتے ہیں۔ پھر کچھ معمولات بیان فرمائے کہ یہ تھوڑے سے معمولات کر لیا کرو۔

ضعیف بھی محروم نہیں رہے گا

بہر حال! ضعیف یہ نہ سمجھے کہ میں ضعف کی وجہ سے محروم رہ گیا۔ ارے ضعف کی وجہ سے کوئی محروم نہیں ہوتا، اگر کوئی محروم ہوتا ہے تو وہ اپنی بد عملی کی وجہ سے محروم ہوتا ہے۔ اپنی غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنی بے دھیانی کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص ضعیف ہے تو وہ اگر تھوڑا بھی عمل کر لے تو انشاء اللہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔

ضعیف صحابہ کرام کا ایک اشکال

چند فقراء صحابہؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! صحابہ کرام میں جو ہمارے اغنیاء اور مالدار دوست ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور ان کا دامن سخاوت ہر وقت لوگوں کے لئے بچھا ہوا ہے، لہذا وہ تو بڑے اونچے درجات کما رہے ہیں، اس لئے کہ صدقہ کے ایک دانے کا ثواب سات سو گنا

تک بڑھ جاتا ہے، اور ہمارے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہیں، ہم کس طرح صدقہ کریں، لہذا وہ اغنیاء تو ہم سے درجات میں آگے بڑھ جائیں گے اور ہم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ ہم کیا کریں؟

تسبیح فاطمی کی فضیلت

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو ان سے آگے بڑھ جاؤ گے اور تمہارے بعد والے تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ تم ہر نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ اور ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تم ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے۔ اب دیکھئے کہ یہ عمل چھوٹا سا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کے ذریعہ تم ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اس بات کی حسرت ہو رہی ہے کہ یہ لوگ فلاں نیک کام کر رہے ہیں، میں نہیں کر پارہا ہوں، اور ساتھ میں یہ کہ اپنے بس میں جتنا کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں۔

تم اپنے حصے کا کام کر لو

لہذا ضعیف کو اپنے ضعف کی وجہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہئے، بلکہ ضعف کے لحاظ سے اپنے بس میں جتنا ہوتا عمل کر گزرے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے کام کی بات فرمایا کرتے تھے، آپ زر سے لکھنے کے

قابل ہے، وہ یہ کہ:

اپنے حصے کا کام تم کر لو، اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام ضرور
کریں گے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھئے

دیکھئے! حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی گئی، اور آپ کو
معلوم تھا کہ دروازے بند ہیں اور ان پر تالے پڑے ہوئے ہیں، باہر نکلنے کا
کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن جب یہ دیکھا کہ گناہ کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ
ہے تو دروازے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ
میرے بس میں اتنا تھا کہ گناہ سے بچنے کے لئے دروازے تک بھاگ جاؤں اتنا
کر لیا، آگے آپ کے بس میں ہے۔ جب انہوں نے اپنے حصے کا کام کر لیا تو
اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حصے کا کام کر دیا کہ تالے ٹوٹ گئے اور دروازے کھل
گئے۔

تم دوڑو تو سہی

اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں۔

گرچہ رختہ نیست عالم را پدید

خیرہ یوسف وار می باید دوید

اگرچہ تمہیں اس عالم میں کوئی رخنہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس فحاشی کے ماحول سے اور مصیبتوں اور گناہوں کے ماحول سے کہاں بھاگیں، کوئی رخنہ نظر نہیں آتا، نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح جتنا ہو سکے دوڑو، جب تم دوڑو گے تو اللہ تعالیٰ خود راستہ پیدا فرمادیں گے۔ اپنے حصے کا کام تم کرو، اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام ضرور کریں گے۔ یہ اصول لوحِ دل پر نقش کرنے کے قابل ہے۔

ایک سبق آموز واقعہ

حضرت والد صاحبؒ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ۱۸۵۷ء کے جہاد آزادی کے زمانے میں انگریزوں کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے تھے، اس وقت ایک مسلمان اپنے گھر کے اندر محصور ہو گئے، ان کے چاروں طرف انگریزوں کا قبضہ تھا، اگر باہر نکلیں تو موت یقینی، اس لئے گھر میں پڑے تھے، اور گھر میں کوئی اور بھی نہیں تھا، وہ اکیلے تھے، اب گھر میں پڑے پڑے قاتلوں کی نوبت آگئی، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کو کچھ تھا، کئی دن اس طرح گزر گئے کہ ایک قطرہ پانی کا حلق میں نہیں گیا۔ قاتلوں کی وجہ سے اتنی شدید کمزوری کہ اٹھنے کے قابل نہ رہے، ٹڈ حال پڑے ہوئے تھے، آخر کار یہ سوچا کہ حتی الامکان کچھ کوشش کرنا بھی تو انسان کے ذمے ضروری ہے، کیا کروں؟ قریب میں ایک پیالہ پڑا ہوا تھا، اس پیالے کو لیٹے لیٹے تھوڑا تھوڑا سر کا سر کا کے گھنٹک لے آئے، اور جب گھنٹک پیالہ آگیا تو اب وہاں پر دعا

کی یا اللہ! میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں اس پیالے کو اٹھا کر صحن تک لے آؤں، بادل لا کر بارش برسانا آپ کا کام ہے، ورنہ میں تو پیاس کی وجہ سے مر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے وہ پیالہ وہاں رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو تھوڑی ہی دیر میں گرج اور چمک کے ساتھ بادل آگئے اور بارش برسی اور وہ پیالہ پانی سے بھر گیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو موت سے بچالیا۔

خلاصہ

بات یہی ہے کہ جب بندہ اپنی استطاعت کا انتہائی کام کر گزرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ یا اللہ! میرے بس میں اتنا ہی تھا، آگے آپ کے اختیار میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوتا ہے اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لئے ضعیف اور کمزور کو بھی مایوس نہ ہونا چاہئے، وہ بھی اپنی حصے کا کام اپنی استطاعت کے مطابق کر لے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھے تو انشاء اللہ منزل مقصود حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ



مجلس نمبر ۴۱

حصول قرب کا مختصر راستہ

جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی



منشیانہ
مؤرخین اسلام

مبین اسلامک پبلشرز

۱/۱۸۸، پلاٹ نمبر ۱۱

مقام خطاب : جامع مسجد دارالعلوم کراچی

وقت خطاب : بعد نماز ظہر - رمضان المبارک

اصلاحی مجالس : جلد نمبر ۳

مجلس نمبر : ۳۱

صفحات : ۱۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

مجلس نمبر ۴۱

اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا مختصر راستہ

اتباع سنت

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،

والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى

آله واصحابه اجمعين، اما بعد!

گھر میں بال بچوں کے ساتھ ذکر کرنا

حضرت والائے ارشاد فرمایا کہ:

اگر بال بچوں کے ساتھ گھرہ کر ذکر نہ ہوتا ہو تو اس کا

علاج یہ ہے کہ بالقصد ایسا اہتمام کرے کہ اگر گھر کے

علاوہ دوسری جگہ میسر ہو تب بھی گھرتی میں ذکر

کرے۔ رانٹین کا معمول ہے کہ گھوڑا جس چیز سے چمکتا ہو اس سے دور کرنے کا اہتمام نہیں کرتے کہ ہمیشہ کی مصیبت ہے، بلکہ ایسی چیز کے سامنے آنے اور دیکھنے کا خوگر کرتے ہیں، یہاں تک کہ چمک نکل جاتی ہے۔

البتہ جس جگہ امر مانع ایسا ہو کہ اس سے ملاہست کی ضرورت نہ ہوگی، وہاں اسلم یہی ہے کہ اس مانع سے مبادت اختیار کی جائے۔ خوب سمجھ لو۔

(انفاس صبی ص ۶۷)

ایسا مانع دور کر دینا چاہئے

اس ملفوظ میں حضرت والا یہ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات ذکر کرنے سے دو قسم کے موانع ہوتے ہیں، ایک مانع تو عارضی قسم کا ہوتا ہے، اگر اس مانع کو دور کر دیا تو اس سے معمولات زندگی میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا، اس صورت میں تو مناسب یہ ہے کہ آدمی اس مانع کو دور کر لے۔

مثلاً ایک شخص ایک گھر میں رہتا ہے، اس گھر کا ایک حصہ ایسا ہے جہاں شور و شغب ہوتا رہتا ہے، بچے کھیلتے کودتے ہیں اور شور مچاتے پھرتے ہیں، اگر آدمی اس جگہ پر بیٹھ کر ذکر کرے گا تو اس کو جمعیت خاطر اور سکون حاصل نہیں ہوگا، ایسی صورت میں اس شخص کو چاہئے کہ ذکر کرنے کے لئے گھر کے اندر ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں شور و شغب زیادہ نہ ہو اور دوسری جگہوں

کے نسبت وہاں نسبتاً سکون ہو۔ یہ مانع ایسا ہے کہ اس کو دور کر دینا چاہئے، اس لئے کہ اس مانع کو دور کر دینا ممکن ہے۔

اس صورت میں گھر میں ہی ذکر کرے

لیکن اگر مانع ایسا ہے کہ انسان کے لئے اپنی طبعی زندگی میں اس مانع سے چھوٹکارا حاصل کرنا مشکل ہے، مثلاً پورا گھر شور و شغب کا شکار ہے اور ہر وقت بچے شور مچاتے رہتے ہیں اور گھر چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں کوئی گوشہ عافیت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ شخص ذکر کے وقت گھر چھوڑ کر مسجد میں یا کسی دوسری جگہ چلا جائے اور وہاں جا کر ذکر کرے، یا گھر میں ہی بیٹھ کر ذکر کرے؟

ایسے شخص کے لئے حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ شخص گھر میں بیٹھ کر ذکر کرے، گھر چھوڑ کر نہ جائے، کیونکہ یہ ایک مستقل عمل ہے، کب تک گھر چھوڑ کر جائے گا۔ اس لئے گھر میں ہی ذکر کرے اور نفس کو اسی تختت کی فضا میں ذکر کرنے کا عادی بنائے، اور اسی پر اگندگی کی فضا میں ذکر کرنے کا عادی بنائے، اس کے لئے مسجد میں جا کر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

ایک مثال

اس کی بڑی اچھی مثال حضرت والا نے یہ دی کہ یہ جو گھوڑا سدھانے والے اور پالنے والے سانس ہوتے ہیں، ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ جب گھوڑا

کسی خاص چیز کو دیکھ کر بدکتا ہے، فرض کریں کہ گھر میں گھوڑا بھی ہے اور کتا بھی ہے، اب گھوڑا کتے کو دیکھ کر بدکتا ہے، یا کوئی تو بزار کھا ہے اس کو دیکھ کر گھوڑا بدکتا ہے، تو سانسوں کا معمول یہ ہے کہ جس تو بڑے کو دیکھ کر گھوڑا بدک رہا ہے تو گھوڑے کو رام کرنے کے لئے اس تو بڑے کو سامنے سے نہیں ہٹاتے، کیونکہ آج وہ اس تو بڑے سے بدک رہا ہے اور تم نے اس تو بڑے کو اس کے سامنے سے ہٹا دیا تو کل وہ کسی اور چیز سے بدکے گا، اس کو بھی ہٹانا پڑے گا، پرسوں تمہارے بچے کو دیکھ کر بدکے گا، تو کیا بچے کو بھی گھر سے نکال دو گے؟ وہ تو روز کی ایک مصیبت بن جائے گی۔ لہذا اس کا علاج یہ ہے کہ گھوڑے کو اس چیز سے مانوس کرے، چنانچہ وہ سانس وہی تو بڑا بار بار اس کے سامنے لے کر جائے گا جس کے نتیجے میں وہ رفتہ رفتہ اس تو بڑے سے مانوس ہو جائے گا، مانوس ہونے کے نتیجے میں پھر نہیں بدکے گا۔

نفس کو اس شور و شغب کا عادی بناؤ

اس لئے حضرت الافرار ہے ہیں کہ جب اسی گھر میں تمہیں رہنا ہے، مستقل طور پر تم اس گھر سے بھاگ نہیں سکتے، تو اس نفس کو اسی شور و شغب میں ذکر کرنے کا عادی بناؤ۔ اگر اسی حالت میں ذکر کرنے سے یکسوئی میسر آجائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اگر یکسوئی میسر نہ آئے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں، لیکن رفتہ رفتہ اس کے اندر یکسوئی آنے لگے گی اور انسان کا نفس اسی کا عادی بن جائے گا۔

غیر معمولی راستہ اختیار کرنا مضر ہے

خلاصہ یہ ہے کہ دل جمعی اور اطمینان حاصل کرنے کے لئے کوئی غیر معمولی راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ غیر معمولی راستہ اختیار کرنا مضر ہے۔ اپنے معمول کی زندگی میں یکسوئی حاصل کرنے کے لئے جتنی تھوڑی بہت فکر کر سکتے ہو کر لو، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ گھر کے جس حصے میں شور و شغب زیادہ ہے اس کو چھوڑ دو، اور جس حصے میں شور و شغب کم ہے وہاں بیٹھ کر ذکر کر لو، لیکن گھر چھوڑ کر نہ بھاگو۔ یہ سب تجربے، حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے مراحل سے خود بھی گزرے ہوئے تھے، اور دوسروں کو بھی ان مراحل سے گزارا ہوا تھا، نہ جانے سیکڑوں بلکہ ہزاروں کو ان مراحل سے گزار دیا، اس لئے یہ باتیں ان کے تجربات کا نچوڑ ہیں، ورنہ یہ باتیں سالہا سال پریشان ہونے کے بعد حاصل ہوتی ہیں، لیکن حضرت والا نے دو چار لفظوں میں یہ چٹکے بتا دیئے۔

یکسوئی کی زیادہ فکر مت کرو

بہر حال! ذکر بذات خود مقصود ہے، ذکر میں اس بات کی فکر کرنا کہ اس میں یکسوئی ہے یا نہیں؟ اس کی بہت زیادہ فکر نہیں کرنی چاہئے، تھوڑی بہت فکر کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے حضرت والا کو لکھا کہ مجھے ذکر میں یکسوئی نہیں ہوتی۔ جواب میں حضرت والا نے فرمایا کہ:

”چاہے یکسوئی بقدر یک سوئی نہ ہو

تب بھی ذکر فائدے سے خالی نہیں“

لہذا اس فکر میں مت پڑو کہ یکسوئی حاصل ہے یا نہیں۔ ارے جس ذات کا ذکر زبان سے جاری ہو رہا ہے، اس کے انوار و برکات اور اس کے فوائد انشاء اللہ حاصل ہوں گے اور پھر رفتہ رفتہ یکسوئی بھی حاصل ہو جائے گی۔

مفید ترین ذکر

حضرت والا نے ارشاد فرمایا:

زیادہ قرب ”لا اِلهَ اِلا اللّٰهُ“ میں ہے کہ یہ ماثور ہے، اور دوسرے اذکار ”اِلا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ اَللّٰهُ“ مصلحت یکسوئی کے لئے تجویز ہوتے ہیں، واقعی تجربہ سے ذکر ماثور اوفق بالطباع ہے اور اس لئے نفع بھی ہے۔

(انفاس عیسیٰ ص ۶۷)

ذکر ماثور اوفق بالطبع ہوتا ہے

حدیث شریف میں بھی ہے کہ ”افضل الذکر ”لا اِلهَ اِلا اللّٰهُ“ ہے۔ حضرت والا یہ ملفوظ ”دوازده تسبیح“ کے سیاق میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ”دوازده تسبیح“ میں پہلے ”لا اِلهَ اِلا اللّٰهُ“ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ”اِلا اللّٰهُ“ کی تسبیح ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ”اللّٰهُ اللّٰهُ“ کی تسبیح پڑھی

جاتی ہے، پھر اللہ اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ ان تمام تسبیحات میں قرب سب سے زیادہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ سے حاصل ہوتا ہے، اس لئے کہ یہ ذکر ماثور ہے، اور دوسرے اذکار یعنی ”إِلَّا اللَّهُ“ یا ”اللَّهُ اللَّهُ“ وغیرہ یہ مصلحت یکسوئی کی خاطر تجویز کئے گئے ہیں، باقی تجربہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ذکر ماثور اوفق بالطباع ہے، یعنی جو اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یا آپ کا اس ذکر کو کرنا یاد دوسروں کو بتانا ثابت ہیں، وہ ذکر جتنا مفید ہوتا ہے اور طبیعت کے موافق ہوتا ہے، دوسرا ذکر نہیں ہوتا، اس لئے ایسا ذکر مفید بھی زیادہ ہے۔

ذکر مسنون میں نور اور برکت ہوتی ہے

جتنے وظائف، اور ادا اور معمولات وغیرہ ہیں، ان میں سے جو سنت کے قریب ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان میں جو نور و برکت ہے اور ان میں جو نفع ہے، وہ دوسرے اذکار اور ادا میں نہیں۔ ویسے تو بزرگوں سے بہت سے اور ادا و اذکار ثابت ہیں، ان اذکار کے اپنے خواص بھی ہیں جن سے انکار نہیں ہو سکتا، نہ اور ادا کو ناجائز اور برا کہہ سکتے ہیں، لیکن جو سنت کا نور ماثور اذکار میں حاصل ہو سکتا ہے، وہ دوسرے اذکار میں حاصل نہیں ہو سکتا۔

بعض لوگوں کی طبیعت

بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت ماثور اذکار میں نہیں لگتی، اس لئے وہ ادھر ادھر کے دوسرے اذکار کے چکر میں لگے رہتے ہیں، بعض درود

لکھی اور ”درد تاج“ میں اور بعض ”دعائے العرش“ وغیرہ میں لگے رہتے ہیں، ان کی طرف ان کی طبیعت بہت مائل ہوتی ہے اور اذکار ماثورہ کی طرف ان کی طبیعت متوجہ نہیں ہوتی، حالانکہ یہ غیر ماثور اذکار ہیں، ان میں سے بعض میں تو خلاف شرع امور ہوتے ہیں، البتہ بعض میں خلاف شرع امور نہیں ہوتے، مثلاً ”حزب الہجر“ ہے، اس میں کوئی خلاف شرع امر نہیں ہے اور بزرگوں کا اس کو پڑھنے کا معمول رہا ہے، لیکن جو نور ادعیہ ماثورہ میں ہے یعنی جو ادعیہ ماثورہ قرآن کریم سے ثابت ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان سے بہتر دعا کوئی نہیں ہو سکتی، ان میں جو نور، جو برکت، جو نفع ہے وہ دوسرے اذکار میں نہیں۔

ادعیہ ماثورہ سے باہر جانے کی ضرورت نہیں

واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ مانگ کر تشریف لے گئے، دنیا اور آخرت کی کوئی ضرورت اور کوئی حاجت اور کوئی نفع کی چیز ایسی نہیں ہے جو ان ادعیہ ماثورہ میں نہ آگئی ہو، اس لئے ان ادعیہ ماثورہ سے باہر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، اگر دن رات آدمی انہی دعاؤں کے پڑھنے کا معمول بنا لے تو بس یہی کافی ہیں۔ یہی معاملہ ذکر کا ہے، جو اذکار ماثورہ ہیں، ان میں جو نور، جو برکت اور جو نفع ہے وہ دوسرے اذکار میں نہیں۔

اتباع سنت کا راستہ زیادہ مختصر ہے

صوفیاء کرام کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، کسی سلسلے میں کوئی راستہ اختیار کیا جاتا ہے، کسی سلسلے میں کوئی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، سب کا مقصود ”وصول الی اللہ“ ہے اور تعلق مع اللہ قائم کرنا ہے، لیکن راستے الگ الگ ہیں، کوئی راستہ مختصر ہے اور کوئی لمبا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے میں جتنا مختصر راستہ ”اتباع سنت“ کا ہے، کوئی اور راستہ اتنا مختصر نہیں۔ جو دوسرے راستے مجاہدات، مراقبات، ریاضتوں، اور اشغال کے صوفیاء کرام نے تجویز کئے ہیں، ان کے نافع ہونے سے انکار نہیں، اور نہ ہی ان کی تنقیص مقصود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تک پہنچانے میں جتنا زود اثر اتباع سنت کا راستہ ہے، کوئی اور راستہ اتنا زود اثر نہیں۔

اتباع سنت میں محبوبیت کی شان

وجہ اس کی یہ ہے کہ اتباع سنت میں محبوبیت کی شان پائی جاتی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ -

(سورۃ آل عمران: ۳۱)

آپ فرمادیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔

اس آیت سے پتہ چلا کہ اتباع سنت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ یہ بات طے شدہ اور منصوص ہے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے گا، اس میں محبوبیت کی شان پیدا ہو جائے گی، اور محبوبیت کی خاصیت ”جذب“ ہے یعنی محبت محبوب کے لئے جاذب ہوتا ہے، محبت محبوب کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اس لئے جو شخص اتباع سنت کا کام کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے، یہ ”جذب“ کا طریقہ جلد منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ

(سورۃ الشوریٰ: ۱۳)

یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔

لہذا اتباع سنت میں محبوبیت ہے، اور محبوبیت میں جذب کا خاصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اتباع سنت کرنے والے کو ”جذب“ فرما لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں راستہ جلد قطع ہو جاتا ہے۔

ایک بزرگ اور ایک بادشاہ کا واقعہ

حضرت والا نے ہی ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے قلعہ کی برج میں بیٹھا تھا، نیچے سے ایک بزرگ گزر رہے تھے، بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ ان بزرگ سے کچھ استفادہ کرنا چاہئے، چنانچہ بادشاہ نے ان بزرگ کو آواز دی کہ حضرت کچھ ہماری طرف بھی نگاہ فرمائیں، ان بزرگ نے فرمایا کہ میں

تمہاری طرف کیسے نگاہ ڈالوں، تمہاری طرف آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اس لئے کہ اتنے بڑے قلعہ کا چکر لگا کر دروازے تک پہنچوں، پھر چوکیداروں اور پھر پہرے داروں سے اجازت لے کر اندر آؤں، پھر تم تک پہنچوں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔

بادشاہ نے کہا کہ میرے تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں، یہ کہہ کر اس نے اوپر سے ایک ٹوکری لٹکادی اور ان بزرگ سے کہا کہ آپ اس ٹوکری میں بیٹھ جائیں، چنانچہ وہ بزرگ اس ٹوکری میں بیٹھ گئے، بادشاہ نے اپنے خادموں سے وہ ٹوکری اوپر کھجواہی۔

اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ

جب وہ بزرگ اوپر پہنچے تو انہوں نے بادشاہ سے فرمایا کہ اب بتائیے کیا بات ہے؟ اس بادشاہ نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس طرح پہنچ جاؤ جیسے میں تمہارے پاس پہنچ گیا، تم نے پکارا، میں نے عذر ظاہر کیا کہ اتنا لمبا چوڑا راستہ قطع کر کے کیسے آؤں، تو تم نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ تک آنا چاہتا ہے، وہ مجھے پکارے اور یہ کہے کہ یا اللہ! میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔

بندہ کی مشیت پر اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ

آیت:

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ

کے ظاہری معنی تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ اس لئے کہ ”یشاء“ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن اس آیت میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ”یشاء“ کی ضمیر ”مَنْ“ کی طرف لوٹ رہی ہو، اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ”اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں جو یہ چاہے کہ اسے کھینچ لیا جائے۔“ لہذا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں تو اس کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا قرب مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔

یہ قلندر کی راستہ ہے

لہذا یہ کھینچنے کا راستہ مختصر ترین راستہ ہے، اس کے مقابلے میں مجاہدات اور

ریاضتوں کا جو راستہ ہے، وہ دور کا راستہ ہے۔ فارسی کا مشہور شعر ہے۔

صنارہ قلندر سزاوار بمن نمائی

کہ دراز و دور دیدم رہ و رسم پارسائی

یعنی مجاہدیت و ریاضتوں کا جو راستہ ہے یہ تو لمبا چوڑا راستہ ہے جو میرے بس کا

نہیں، مجھے تو قلندر والا راستہ بتائیے۔ قلندر والے راستے سے مراد محبت کا راستہ اور اتباع سنت والا راستہ ہے۔ اس اتباع سنت کے ذریعہ جب محبت پیدا ہوگی تو وہ محبت انسان کے اندر اسٹیم بھر دے گی، پھر وہ اسٹیم اس کو تیزی سے راستہ قطع کر دے گی۔ دیکھئے! ریل کا انجن ہے جو فولاد کا ہے اور بہت بھاری ہے، لیکن جب اس کے اندر اسٹیم بھر دی تو اب وہ انجن خود بھی تیزی سے دوڑتا ہے اور پوری گاڑی کو دوڑاتا ہوا لے جاتا ہے۔

اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ دل کے اندر محبت کی اسٹیم بھر دیں تو پھر وہ راستہ بہت تیزی سے قطع ہو جائے گا۔

اتباع سنت کا راستہ خاموشی والا راستہ ہے

اس لئے حضرت والا فرماتے ہیں کہ اتباع سنت کا راستہ قریب کا راستہ ہے اور جلدی منزل تک پہنچانے والا ہے، البتہ اس راستے میں شور و شغب نہیں ہے، جس کی وجہ سے دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ شخص کوئی لمبا چوڑا راستہ قطع کر رہا ہے، مثلاً اگر کوئی شخص بیٹھا ذکر و شغل میں مصروف ہے یا مراقبہ کر رہا ہے، چلتے کاٹ رہا ہے تو دیکھنے والے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ جو قلندر والا راستہ ہے اور اتباع سنت والا راستہ ہے، اس میں دیکھتے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کوئی عمل کیا ہے، مثلاً ایک شخص نے مسجد سے نکلنے وقت بایاں پاؤں باہر نکال دیا تو اب کسی کو کیا پتہ چلا کہ اس نے کیا عمل کیا لیکن اتباع سنت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا۔ جو اکھڑ نکا آیا، اس

پر آپ نے دل میں کہہ دیا "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ" اب کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا سے کیا ہو گیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کی اہم عبادت انجام پا گئی اور وہ ہے "شکر" کی عبادت۔

یہ راستہ شیطانی دسائس سے مامون ہے

بہر حال! اتباعِ سنت کا راستہ ایسا ہے کہ دیکھنے والے کو کچھ پتہ نہیں لگتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شیطان کے جو دسائس ہیں یعنی حبِ مال، حبِ جاہ، تکبر، خود پسندی، عجب، ریاکاری، وہ اس راستے میں کم ہوتے ہیں۔ اسی لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اندر اس طرح تبدیلی لاؤ کہ انگلیاں نہ اٹھیں، ایسا نہ ہو کہ کل تو یہ حال تھا اور آج ایک انقلابِ عظیم برپا ہو گیا، کیا سے کیا ہو گئے، اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ لوگ اس کی طرف اشارہ کریں گے کہ اس آدمی میں اچانک انقلاب آ گیا، یہ انگلیاں اٹھنا قتنہ ہے، اس لئے کہ انگلیاں اٹھنے کے نتیجے میں انسان کے اندر عجب، تکبر، خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔

چپکے چپکے تبدیلی لاؤ

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح تبدیلی لاؤ جس طرح بچہ بالغ ہو جاتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ بچہ کس دن بالغ ہوا، ایک ایک دن گزرتا چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بچہ بالغ ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کون سا وقت اور کون سا دن تھا جب وہ بالغ ہوا۔ اس طرح تبدیلی

حضور کی نقل اتارو

اور یہ تبدیلی اس طرح آتی ہے کہ ہر چیز میں اس بات کا اہتمام کرو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور سچی بات تو یہ ہے کہ سارے دین کا، سارے احکامات کا، ساری شریعت اور طریقت کا حاصل اگر کچھ ہے تو وہ ”اتباع سنت“ ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث اسی لئے فرمایا تھا کہ تم ان کو دیکھو اور ان کی نقل اتارو، اور ان کی اتباع کرو۔

روزانہ اپنا جائزہ لو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر اور شریعت پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ارے کوئی مشکل نہیں، اپنا ایک لائحہ عمل بنا لو اور روزانہ اپنا جائزہ لو، اور میں نے تمہارے لئے ”اسوۃ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم“ کے نام سے ایک ڈائری بنا دی ہے، روز اس کو دیکھتے جاؤ کہ کس کس کام میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں اور کس کام میں نہیں کر رہے ہیں، جس کام میں سنت کا اتباع نہیں کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے ان میں بھی اتباع کرتے چلے جاؤ، اس طرح رفتہ رفتہ بالغ ہو جاؤ گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا سے کیا ہو گیا۔

پانی کا قطرہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے

دیکھئے! اگر مل سے پانی ٹپک رہا ہو اور نیچے پتھر رکھا ہوا ہو، پانی ٹپکتے ہوئے ایک دن گزرا، دو دن گزرے، ایک ہفتہ گزرا، ایک مہینہ گزر گیا، رفتہ رفتہ وہ پانی اس پتھر میں سوراخ کر دے گا۔ اگر اس قطرے کو دیکھو تو اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پتھر کے اندر سوراخ کر دے، اور نہ کسی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی کا کونسا قطرہ تھا جس نے پتھر میں سوراخ کیا، لیکن مجموعی طور پر سارے قطرے مل کر اس پتھر میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اتباع سنت والے اعمال بظاہر دیکھنے میں بہت چھوٹے چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کا مجموعہ مل کر سوراخ کر دیتا ہے، اور پھر وہ دینِ دل میں جا گزریں ہو جاتا ہے۔ اس لئے ہمارے بزرگوں نے دوسرے راستوں کو چھوڑ کر اتباع سنت کا راستہ اپنایا ہے اور اسی کو اپنا مقصود زندگی بنایا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی اور باطنی ترقی کی انتہاء

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ سنایا کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے علوم ظاہرہ کی تکمیل کر لی، تو میں نے سنا کہ کچھ علوم باطنہ بھی ہوتے ہیں جو صوفیاء کرامؒ کے پاس ہیں، میں نے سوچا کہ وہ بھی دیکھنے چاہئیں کہ وہ کیا ہیں۔ چنانچہ میں صوفیاء کرام کے پاس گیا، معلوم ہوا کہ صوفیاء میں چار قسم کے سلسلے ہیں، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، اور بھرہر ایک کی الگ شاخیں ہیں، میں نے ہر

ایک سلسلہ والوں کے پاس جا کر ان کے علوم حاصل کئے اور ہر ایک سلسلے والوں نے جو طریقے مقرر کئے ہوئے تھے ان طریقوں کو نہ صرف یہ کہ دیکھا بلکہ ہر ایک طریقے کو برتا اور اس پر عمل کیا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک بہت اونچا مقام عطا فرمایا، پھر اس میں ترقی کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچا کہ علماء ظاہر تو اسے کیا سمجھیں گے، علماء باطن بھی اس کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ کی دعا

لیکن میں سب مقامات طے کرنے کے بعد ایک دعا کرتا ہوں اور جو شخص اس دعا پر آمین کہے گا، انشاء اللہ اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے کہ:

اے اللہ! مجھے اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیے، آمین۔

اے اللہ! مجھے اتباع سنت پر زندہ رکھے، آمین۔

اے اللہ! مجھے اتباع سنت پر موت عطا فرمائیے، آمین۔

بہر حال! اذکار میں جو ماثور اذکار ہیں اور دعاؤں میں جو ماثور دعائیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان میں جو نور اور برکت ہے، وہ نور اور برکت دوسرے اذکار میں نہیں۔

درود ماثور پڑھنے چاہئیں

آج لوگ دوسرے درود کی تلاش میں رہتے ہیں، حالانکہ حضور اقدس

صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے بہت سے طریقے بتادیئے، جس پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھ دی، اس کتاب کا نام ہے ”القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبيب الشفیح“ اس کتاب میں درود شریف کے سیکڑوں الفاظ جمع فرمادیئے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اس لئے اپنی طرف سے درود شریف گھڑنے کی ضرورت نہیں۔ لہذا ماٹور اذکار اور ماٹور دعائیں اور ماٹور درود ہی پڑھنے چاہئیں، ان میں بڑی برکت ہے۔

مبتدی کو ذکر اور منتہی کو تلاوت

آگے حضرت والا نے فرمایا کہ:

مبتدی کے لئے ذکر سے زیادہ شغف مناسب ہے، منتہی کے لئے تلاوت ہے۔

(انفاس عینی ص ۶۷)

ابتداء میں چونکہ مبتدی کا دل نہیں لگتا، اس کے لئے ذکر کرنا مناسب ہے، اس لئے کہ اس میں اس کا دل لگ جاتا ہے، لیکن منتہی کے لئے تلاوت مناسب ہے کہ وہ جتنی تلاوت کی کثرت کرے، اتنا ہی اس کے لئے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ



مجلس نمبر ۳۲

استغفار اور معمولات کی دائمیگی

جلس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی



مطبوعات
مجمع المدین

مجمع اسلامک پبلشرز

۱/۱۸۸ بلاکٹ آباد لاہور

مقام خطاب : جامع مسجد دارالعلوم کراچی
 وقت خطاب : بعد نماز ظہر۔ رمضان المبارک
 اصلاحی مجالس : جلد نمبر ۳
 مجلس نمبر : ۴۲
 صفحات : ۱۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

مجلس نمبر ۴۲

استغفار اور معمولات کی ادائیگی

الحمد لله رب العالمين، والعاقة للمتقين،
والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى
آله وأصحابه أجمعين، أما بعد!

حضرت والائے ارشاد فرمایا کہ:

اگر رات کو بیدار ہونے کا یقین نہ ہو تو بعد عشاء سب
معمولات کو ادا کر لینا احسن ہے۔

(انفاس عینی، ص ۶۷)

رات کو جب آنکھ کھلے استغفار کر لو

یعنی بعض مرتبہ تہجد کی نماز کے ساتھ بعض معمولات مقرر کر لئے
جاتے ہیں، ان کے بارے میں سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آدمی آخری
شب میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی اور معمولات ادا کرنے کی عادت ڈالے، لیکن حکیم

الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم جیسے کمزوروں کے لئے بڑے آسان نسخے تجویز فرمائے ہیں، چنانچہ جن لوگوں کو آخری شب میں اٹھنے کی عادت نہیں ہے یا کسی وجہ سے ان کے لئے آخری شب میں اٹھنا مشکل ہے تو ایسے لوگوں کے لئے ایک طریقہ تو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ جب کبھی رات کے وقت آنکھ کھلے تو اس وقت اٹھ کر بستر پر تھوڑی دیر بیٹھ جائے اور کچھ دعا کر لے اور کم از کم تین بار یہی دعا کر لے۔

اللہم اغفر لی۔ اللہم اغفر لی۔ اللہم اغفر لی۔

اس لئے کہ حدیث میں ہے کہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کا منادی آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ اب منادی تو آواز لگا رہا ہے، لیکن آدمی بے نیاز ہو کر بیٹھا ہے اور کچھ نہ مانگے، یہ بڑی ناقدری کی بات ہے۔ اس لئے جب رات کو آنکھ کھلے اور نماز وغیرہ نہ بھی پڑھی جاسکے تو کم از کم تھوڑی دیر بیٹھ کر دعا ہی کر لے، اور دعا مانگنے کے بعد پھر سو جائے، لیکن اس بات کا التزام کر لے کہ جب بھی آنکھ کھلے گی تو یہ کروں گا۔ لہذا جو شخص اس بات کا التزام کر لے گا اس کو انشاء اللہ ایک نہ ایک دن تہجد پڑھنے کی ضرورت تو پیش ہو جائے گی۔

ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے

اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی

کو کھینچتی ہے، لہذا جب آنکھ کھلی اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور دعا کر لی اور دل میں ایمان ہے تو اس وقت اس کو یہ خیال ضرور آئے گا کہ اب میں اٹھ تو گیا ہوں، نیند بھی ہو گئی ہے، چلو دو چار رکعت پڑھ ہی لو، اس طرح اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ توفیق عطا فرمادیتے ہیں۔

عشاء کے ساتھ تہجد پڑھنے کا ثبوت

دوسرا طریقہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اگر رات کو اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تو عشاء کے فرض اور سنت کے بعد اور وتر سے پہلے کچھ رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرے۔ یہ طریقہ ہمارے سارے بزرگ بتاتے چلے آئے ہیں، یہ طریقہ بے اصل نہیں ہے، بلکہ خود حضرت والا نے اس ملفوظ کے تحت مجھ کبیر کے واسطے سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ:

عن ایاس بن معاویۃ المزنی أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا بُدَّ من صلاةِ لیل و لو ناقة و لو حلب شاة، و ما کان بعد صلاة العشاء الاخرة فهو من اللیل۔

(المعجم الكبير للطبرانی، ج ۱، ص ۲۷۱، حدیث نمبر ۷۸۷)

حضرت ایاس بن معاویہ المزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رات کو تھوڑی بہت نماز ضرور پڑھو، چاہے اتنی دیر کے لئے کیوں

نہ ہو جتنی دیر میں بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے، یعنی چاہے
تھوڑی دیر کے لئے ہو۔ اور عشاء کے بعد جو نماز پڑھی
جائے گی وہ رات میں ہی شمار ہوگی۔

کچھ عبادت رات کی تاریکی میں

ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال بیان
فرمائے جن سے انسان کو جنت حاصل ہوتی ہے، کئی اعمال بیان کرنے کے بعد
آخر میں ایک خوبصورت لفظ ارشاد فرمایا:

وَسْئِي مِنَ الدَّلْجَةِ - (۱)

(صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب الدین یسر)

یعنی تھوڑا سا حصہ رات کے اندھیرے میں۔ یعنی رات کے اندھیرے میں اللہ
تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر کچھ عرض معروض کر لینا بھی ان اعمال میں داخل
ہے جو انسان کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ لہذا یہ ”سئی من الدلجہ“ آخر شب
میں نہ ہو تو اول شب میں ہی کر لے، عشاء کے بعد ہی کر لے، چنانچہ اوپر جو

(۱) پوری حدیث اس طرح ہے:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ان الدين يسر
ولن يشاد الدين أحد الاغلبه، فسد دوا وقاربوا
وايشروا استعينوا بالغدوة والرؤحة وسئى من
الدلجة۔

حدیث بیان کی اس میں صاف صراحت ہے کہ:

وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ

یعنی جو عشاء کے بعد کا وقت ہے وہ سب رات کا حصہ ہے۔ لہذا عشاء کے بعد جو بھی عبادت کی جائیگی وہ رات ہی کے قیام میں شمار ہوگی۔

تہجد کا اصل وقت

اسی لئے فقہاء کرام نے فرمایا کہ تہجد میں افضل یہ ہے کہ اس کو آخری شب میں پڑھا جائے، اور اگر رات کے دو حصے کئے جائیں تو نصف ثانی افضل ہے۔ بہر حال، افضل یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد تہجد کی نماز پڑھی جائے، اور زیادہ افضل یہ ہے کہ کچھ دیر سوکر اٹھنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھی جائے، اس لئے کہ یہ لفظ تہجد ”ہجود“ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں ”رات کو سونا“ (مصباح اللغات: لفظ ”ہجود“) لہذا سوکر اٹھنے کے بعد تہجد پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے رات کو اٹھ کر پڑھنا مشکل ہو تو اول شب میں ہی پڑھ لے، تاکہ اس کی فضیلت سے محروم نہ رہے، البتہ یہ نیت رکھے کہ اگر آخر شب میں آنکھ کھل گئی تو اس وقت بھی پڑھ لوں گا، ورنہ یہ رکعات اس کے قائم مقام ہو جائیں گی۔

وتر کے بعد کی دو رکعتوں کی اہمیت

وتر کے بعد جو دو رکعتیں نفل پڑھی جاتی ہیں، ان کے بارے میں ایک

حدیث میں آیا ہے کہ ان کو اس لئے پڑھا جاتا ہے کہ اگر آخر شب میں آنکھ نہ کھل سکے تو انسان تہجد سے محروم نہ رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اول شب میں تہجد کی نیت سے چند رکعات پڑھنے سے بھی انشاء اللہ تہجد کی فضیلت اور ثواب حاصل ہو جائے گا۔

یہ رکعات بھی تہجد کے قائم مقام ہیں

میں نے ایک مرتبہ اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ حضرت! اول یہ چاہتا ہے کہ ”شئ من الدُّلْجَةِ“ کی توفیق ہو جائے، لیکن اپنی طبعی کمزوری اور نیند کی بے قاعدگی کی وجہ سے موقع نہیں ملتا۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ عشاء کے ساتھ تو آپ پڑھ لیتے ہیں اور وہ ”شئ من الدُّلْجَةِ“ کے قائم مقام ہے۔ بہر حال! اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو بھی مل جائے وہ نعمت ہے، اگر آخر شب میں اٹھنے کا موقع نہیں ملتا، تو اول شب میں ہی چند رکعات پڑھ لینی چاہئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے قیام اللیل ہی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات سے محروم نہ فرمائے۔ آمین۔

عشاء کے بعد معمولات پورے کر لو

ساتھ میں حضرت والا نے یہ بھی فرمادیا کہ وہ معمولات جو تہجد ہی میں ادا کرنے کے ہیں، مثلاً بعض بزرگوں نے فرمایا کہ دو ازدہ تسبیح کا سب سے اچھا وقت تہجد کا وقت ہے، اس وقت پڑھنا سب سے زیادہ نافع ہوتا ہے، لیکن اگر تہجد کے وقت اٹھنا نہیں ہوتا تو عشاء کے بعد ہی ان معمولات کو پورا کر لے، انشاء

اللہ یہ تہجد کے وقت پڑھنے کے قائم مقام ہو جائے گا۔

معمولات پورے نہ ہو سکنے پر توبہ استغفار

حضرت والائے ارشاد فرمایا:

اگر بوجہ کثرت کاروبار کے معمولات و اوراد پورا نہ کر سکے تو جتنا ہو سکے کرتا رہے، جو کی رہ جائے استغفار و ندامت سے اس کی تلافی کرے، کام بنانے کے لئے یہی کافی ہے۔

(انفاس عیسیٰ ص ۶۸)

یعنی انسان جتنے معمولات اور اوراد مقرر کرے تو یہ سوچ کر مقرر کرے کہ مجھے یہ معمولات نبھانے ہیں، لہذا اتنے ہی مقرر کرے جتنے نبھاسکے۔ لیکن چونکہ ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ عوارض لگے ہوتے ہیں، لہذا اگر کسی عارض کی وجہ سے انسان اپنا معمول پورا نہ کر سکے تو اس کی وجہ سے مایوس نہ ہو، بلکہ جتنا کر سکتا ہو وہ کر لے اور باقی کے چھوٹنے پر استغفار اور ندامت کرے۔

معمول میں کمی کر دو، ناغہ مت کرو

ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو معمول مقرر کر لیا ہے تو اب اس کو چھوڑو مت، البتہ بوقت ضرورت اس کی تعداد میں کمی کر لو، مثلاً معمول میں سومرتبہ پڑھنا تھا، اب کسی عارض کی وجہ سے سومرتبہ پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو پچاس مرتبہ پڑھ لو، پچاس مرتبہ بھی پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو ۳۳ مرتبہ پڑھ لو، ۳۳ مرتبہ بھی مشکل ہو تو گیارہ مرتبہ پڑھ لو، گیارہ مرتبہ مشکل ہو رہا

ہے تو ۷ مرتبہ پڑھ لو، ۷ مرتبہ مشکل ہو رہا ہو تو ۳ مرتبہ پڑھ لو، اور یہ طے کر لو کہ اس وقت تک بستر پر نہیں جاؤنگا جب تک تین تین مرتبہ یہ معمول پورا نہیں کر لوں گا۔ لیکن چھوڑو نہیں، اس لئے کہ چھوڑنے میں بڑی بے برکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کم مقدار سے بھی کام بتا دیں گے۔

باقی کی تلافی استغفار سے کر لو

ایک طرف تو کم مقدار پر عمل کر لو، اور دوسری طرف یہ کرو کہ معمول کی جس مقدار کو چھوڑ دیا ہے، اس پر ندامت، استغفار، شگستگی اور عاجزی کا اظہار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ! مجھ سے اس پر عمل نہیں بن پڑا، تو پھر یہ عاجزی، شگستگی اور استغفار باقی کی تلافی کر دیگا۔ یہ ”استغفار“ بڑی عجیب و غریب چیز ہے، جو عمل انسان سے چھوٹ جائے، مقدار میں چھوٹ جائے، یا کیفیت کے اعتبار سے چھوٹ جائے، مثلاً کوئی عبادت جتنی کرنی تھی اتنی نہیں کی، یا جیسی کرنی تھی ویسی نہیں کی، تو دونوں کی تلافی ”استغفار“ سے ہو جاتی ہے۔

عبادت کے بعد تمہید و استغفار

میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ کسی کتاب میں نظر سے نہیں گزرا، لیکن ظاہر ہے کہ کسی کتاب ہی سے حضرت نے نقل کیا ہوگا۔ وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ:

جو شخص کوئی بھی عبادت کرنے کے بعد یہ دو جملے مجھ
دے، ایک ”الحمد للہ“ اور دوسرے ”استغفر اللہ“ تو
شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی۔

مثلاً نماز پڑھی اور نماز کے بعد ”الحمد للہ“ اور ”استغفر اللہ“ کہہ دیا تو شیطان کہتا ہے
کہ اس نے میری کمر توڑ دی، کیوں؟

شیطان کے ایک داؤ کا علاج ”استغفار“

وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان کے داؤدو طرح کے ہوتے ہیں، ایک داؤ بیہ
ہوتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو شیطان اس سے یہ کہتا ہے
کہ تو نے کیا نماز پڑھی، تو نے تو ٹکریں ماریں، تو کیا اور تیری نماز کیا، یہ تیری
نماز تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ نماز کے اندر تیرا دھیان کہیں تھا، تیرا دل کہیں
تھا، نہ تجھ سے نماز کے آداب پورے ہوئے، نہ شرائط پوری ہوئیں، اس لئے
اس نماز سے تجھے کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا، تیری یہ نماز بیکار ہے وغیرہ
وغیرہ۔ ان سب باتوں کے ذریعہ شیطان اس کے اندر نماز سے مایوسی پیدا کر دیتا
ہے۔ اس مایوسی کا علاج یہ ہے کہ نماز کے بعد کہو ”استغفر اللہ“ یعنی اے اللہ!
اس نماز میں جو کوتاہی ہوئی تھی اس سے مغفرت مانگتا ہوں، اس پر استغفار کرتا
ہوں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو کوتاہی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو کامل بنا دیں گے،
اس لئے کہ یہ استغفار ہر کوتاہ عمل کو کامل بنانے والا ہے۔

دوسرے داؤ کا علاج ”تحمید“

شیطان کا دوسرا داؤ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان عبادت کر لیتا ہے تو اس کو تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ولہ، تو نے بڑی اچھی اور اعلیٰ درجے کی عبادت انجام دی، اور اب تو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو گیا۔

عربی میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ:

صَلَّى الْحَائِكِ رَكْعَتَيْنِ وَانْتَظَرَ الْوَحْيَ -

ایک مرتبہ ایک جو لاپے نے دو رکعتیں نماز کی پڑھ لیں، اور پھر وحی کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ کب میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم جیسے آدمی کو جب تھوڑی بہت عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے تو دماغ میں یہ خناس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی علاج یہ ہے کہ جب عبادت کر لو تو کہو، ”الحمد لله“ ارے ہم کیا اور ہماری عبادت کیا، انہی کی توفیق سے یہ عبادت انجام پاتی ہے، ہماری کیا حقیقت کہ ہم سے کوئی عبادت انجام پا جائے۔

جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے

جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا

اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ذرہ نہیں مل سکتا، اس لئے عبادت کے بعد کہو ”الحمد لله“ اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے عبادت کی توفیق عطا فرمادی۔ بہر حال! ہر عبادت کے بعد کہو ”الحمد لله، استغفر الله“۔ الحمد لله کے ذریعہ اللہ

تعالیٰ کی توفیق پر شکر ادا کرو، اور استغفر اللہ کے ذریعہ اپنی کوتاہی پر استغفار کرو کہ ہم سے صحیح طور پر عبادت انجام نہیں پائی۔ بس یہ دو چیزیں جمع کر لو تو اس پر شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی، اب میرے لئے اس موقع پر بہکانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔

ہر نماز کے بعد تین مرتبہ استغفار

یہ توحید میں موجود ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد تین مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، ”استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ“۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ استغفار کرنے کا کونسا موقع ہے؟ کیونکہ استغفار تو کسی گناہ کے بعد کیا جاتا ہے نہ کہ عبادت کے بعد، لیکن یہاں نماز پڑھنے کے فوراً بعد استغفار پڑھا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لئے کہ استغفار کے ذریعہ اس بات کا اقرار ہو رہا ہے کہ یا اللہ! جیسی نماز پڑھنی چاہئے تھی، ویسی نماز ہم سے بن نہیں پڑی، اے اللہ! اس پر ہماری مغفرت فرما۔

ایک دن میں ستر مرتبہ استغفار

بہر حال! یہ استغفار بڑا عجیب تریاق اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہر وقت استغفار کرنے کی عادت ڈالنی چاہئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”میں دن میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں“۔ علماء نے فرمایا کہ یہ ستر کا عدد تکمیل کے لئے ہے، تحدید کے لئے نہیں، یعنی میں بہت کثرت سے

استغفار کرتا ہوں۔ توجب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے معصوم تھے، وہ کثرت سے استغفار فرماتے تھے تو ہم آپ کو توہر وقت استغفار کرنا چاہئے، اس لئے کہ ہم توہر وقت گناہوں اور خطاؤں میں مبتلا رہتے ہیں، ورنہ کم از کم عبادت کی کوتاہیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ استغفار ہے۔

استغفار سے مدارج کی ترقی

ہمارے حضرت والارحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات بندہ اس کے ذریعہ اتنے مدارج اور اتنے درجات حاصل کرتا ہے کہ اگر انسان کوتاہی نہ کرتا تو شاید اس کو اتنے مدارج نہ ملتے جتنے مدارج کوتاہی کر کے پھر اس پر استغفار کرنے سے مل جاتے ہیں۔

ایسی تیسی میرے گناہوں کی

ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت بابا نجم احسن صاحب قدس اللہ سرہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے، بڑے عجب بزرگ تھے، وہ شعر بھی بڑے اچھے کہا کرتے تھے، اور ان کے شعر کہنے کا انداز ایسا بے تکلفی کا ہوتا تھا جیسے کسی زمانے میں ”داغ“ اور ”میر“ کا بے تکلف شاعری کا انداز ہوتا تھا ان کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، فرماتے تھے۔

دو تیس مل گئی ہیں ”آہوں“ کی

ایسی تیسی میرے گناہوں کی

”آہ“ سے مراد استغفار ہے، یعنی جب مجھے استغفار کی دولت مل گئی تو اب یہ گناہ میرا کیا کریں گے۔

شکستگی پسندیدہ چیز ہے

ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ غلطی ہو جانے کے بعد جب انسان سچے دل سے استغفار کرتا ہے اور اس استغفار کرنے کے نتیجے میں قلب میں جو شکستگی پیدا ہوتی ہے اور جو عاجزی اور عبدیت پیدا ہوتی ہے، اس عبدیت اور شکستگی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ بعض اوقات غلطی کرائی جاتی ہے، اس لئے کرائی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر شکستگی پیدا ہو۔ اس لئے یہ استغفار بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔

ہمارے حضرتؒ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا رو رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ رونا بڑا پسند ہے، اور پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ کی ستاری اور غفاری کا مورد بنتا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ”ستار“ اور ”غفار“ ہونے کی جو صفات ہیں وہ اس وقت ظاہر ہوتی ہیں۔

شیطان کا تہجد کے لئے اٹھانے کا واقعہ

حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ پابندی سے تہجد پڑھا کرتے تھے، ایک روز تہجد کے وقت آنکھ نہ کھلی اور سوتے رہ گئے اور تہجد کی نماز چھوٹ گئی، جب صبح بیدار

ہوئے تو بڑا صدمہ ہوا کہ آج میری تہجد کی نماز چھوٹ گئی، اور اس کے نتیجے میں سارا دن روتے رہے اور توبہ استغفار کرتے رہے۔ جب اگلی رات کو سوئے تو تہجد کے وقت ان کو بیدار کرنے کے لئے کوئی شخص پہنچ گیا، آپ بیدار ہوئے اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں، آپ نے فرمایا کہ تہجد کے لئے بیدار کرنے سے تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا کہ ان باتوں کو چھوڑو، بس جلدی سے اٹھ جاؤ اور تہجد پڑھ لو۔ آپ نے فرمایا کہ آخر تم کیوں اٹھا رہے ہو، تم تو نماز سے روکنے والے اور بہکانے والے ہو؟ اس پر شیطان نے جواب دیا کہ میں نے گزشتہ کل آپ کو بہکا کر سلا دیا تھا اور اس کے نتیجے میں آپ کی تہجد قضا ہو گئی تھی، لیکن اس کی وجہ سے آپ سارا دن روتے رہے اور استغفار کرتے رہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات اتنے بلند کر دیے کہ تہجد پڑھنے سے بھی وہ درجات نہیں ملتے۔ اس لئے میں نے سوچا کہ آج میں خود آپ کو اٹھا دوں تاکہ مزید درجات بلند نہ ہوں۔

استغفار کار آمد چیز ہے

بہر حال! یہ استغفار بڑی کار آمد چیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کرتے رہو اور پھر اس پر استغفار کرتے رہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے یا کوئی کام ہو جائے، اور ہر انسان سے ہو ہی جاتی ہے تو اس وقت پھر استغفار کو اپنا معمول بنا لو، اور جلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کرتے رہو، اور اس وقت تک انسان کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک وہ استغفار کو اپنا

معمول نہ بنالے۔ اس لئے جب کبھی عبادات میں، خیالات میں، تصور میں کوتاہی ہو جائے تو فوراً کہو:

‘استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔

یہ استغفار ہر زہر کا تریاق ہے۔

استغفار شیطان کے زہر کا تریاق

ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کرنے کے نتیجے میں ایک زہر پیدا کیا، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ زہر تو پیدا کریں اور تریاق پیدا نہ کریں، لہذا اس شیطان کے زہر کے ساتھ ”استغفار“ کا تریاق پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ جب یہ شیطان تمہیں ڈسے تو تم یہ تریاق استعمال کر لو۔

جنوبی افریقہ میں ایک زہریلی جھاڑی

اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی بیماری پیدا فرماتے ہیں تو اس کا علاج بھی پیدا فرماتے ہیں، جب کوئی زہر پیدا فرماتے ہیں تو اس کا ”تریاق“ بھی پیدا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن سے ہم لوگ کار میں سفر کر رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت آ گیا، اتنے میں ایک خوبصورت منظر سامنے آیا، ہم نے سوچا کہ یہاں اتر کر نماز ادا کر لیں، کار سے اترے، ساتھی وضو وغیرہ کی تیاری میں مشغول ہو گئے، میں اس خوبصورت منظر سے لطف اندوز ہونے کے لئے قریب کے درخت اور جھاڑیوں کی طرف چلا گیا، وہاں

ایک جھاڑی اگی ہوئی تھی جس کے پتے بہت خوبصورت تھے، جب میں نے اس کے پتے توڑنے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو میرے ایک ساتھی ایک دم سے میری طرف لپکے کہ نہیں مولانا، اس کو ہاتھ مت لگائیے، میں نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بہت زہریلی جھاڑی ہے، اگر اس کو ہاتھ لگادیں تو ہاتھ میں زہر پھیل جاتا ہے، اور بچھو کے کاٹنے سے جیسی لہریں اٹھتی ہیں اس کو ہاتھ لگانے سے ویسی لہریں اٹھتی ہیں، یہ اتنی خطرناک ہے، اس لئے ہم نے آپ کو اس سے روکا۔

میں نے کہا کہ یہ تو بڑی خطرناک جھاڑی ہے، اب اس وقت تو آپ نے مجھے اس کے بارے میں بتادیا، لیکن اگر انجان آدمی آکر اس کو ہاتھ لگادے گا تو اس کے سارے جسم میں زہر چڑھ جائے گا۔ میرے رفقاء سفر نے کہا کہ یہ بات تو ہے، لیکن جہاں یہ جھاڑی اگتی ہے، اسی کی جڑ میں ایک اور جھاڑی ضرور اگتی ہے اور وہ اس کے زہر کا تریاق ہے، لہذا اگر کسی شخص کو اس جھاڑی کے ہاتھ لگانے سے زہر چڑھ جائے تو وہ نیچے والی جھاڑی کو ہاتھ لگادے تو وہ زہر ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زہر کا تریاق پیدا فرمایا ہے۔

توبہ کرنے والا گناہوں سے پاک

اسی طرح یہ شیطان بھی ایک زہر ہے، جب اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اس کا تریاق بھی پیدا فرمایا، اور وہ تریاق بہت آسان ہے، اس کو حاصل کرنے کے لئے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر انسان ذرا توجہ کر کے، سچے

دل سے، ندامت قلب سے، اور آئندہ گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کر کے یہ کہہ دے:

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ -

تو بس سارا زہر ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

التائب من الذنب كمن لا ذنب له -

(کنز العمال، حدیث نمبر ۱۰۱۷۶)

گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔

توبہ کے بعد اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، وہ گناہ جس سے سچے دل سے توبہ کر لی، اب وہ نامہ اعمال میں باقی نہیں، اس لئے یہ استغفار بہت عمدہ چیز ہے۔

سحری کے وقت استغفار کیوں؟

قرآن کریم کی جب آیت نازل ہوئی:

كَانُوا قَلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝

وَبِالْآسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ -

(سورۃ الذاریات، آیت ۱۷-۱۸)

یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رات کو بہت کم سوتے ہیں اور ساری رات کھڑے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول

رہتے ہیں اور پھر سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔

تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! یہ سحری کے وقت استغفار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ساری رات تو عبادت کی، کوئی گناہ تو نہیں کیا جس سے وہ استغفار کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عبادت سے استغفار کر رہے ہیں کہ یا اللہ! ہم نے عبادت تو کی، لیکن آپ کی عبادت کا حق ادا نہ ہوا، اس سے استغفار کر رہے ہیں، اور جب یہ کہہ دیا کہ ہم سے حق ادا نہ ہوا تو وہ عبادت بھی قبول ہو گئی۔

خلاصہ

اس لئے ہر وقت استغفار کرنے کی عادت ڈالنی چاہئے، جب بھی ماضی کے کسی فعل کا خیال آئے، اس پر استغفار کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



مجلس نمبر ۳۳

اوراد و وظائف

سے مقصود ”عبدیت“ ہے

جلس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی



مکتبہ و ترقیہ
محمد عبید اللہ

میمن اسلامک پبلیشرز

۱/۱۸۸ - لیاقت آباد کراچی ۱۱

مقام خطاب : جامع مسجد دارالعلوم کراچی
 وقت خطاب : بعد نماز ظہر۔ رمضان المبارک
 اصلاحی مجالس : جلد نمبر ۳
 مجلس نمبر : ۴۳
 صفحات : ۱۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

مجلس نمبر ۳۴

اوراد و وظائف سے مقصود ”عبدیت“ ہے

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،
والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى
آله وأصحابه أجمعين، أما بعد!

”ورد“ کا مقصود اصلی ”عبدیت“ ہے

حضرت والائے ارشاد فرمایا کہ:

ورد سے جو مقصود اصلی ہے وہ خود مرض میں بھی حاصل
ہے یعنی ”عبدیت“

(انفاس بیسی، ص ۶۸)

بعض اوقات کسی عذر مثلاً بیماری کی وجہ سے انسان کے معمولات
چھوٹ جاتے ہیں، بعض لوگوں کو ان معمولات کے چھوٹ جانے کا صدمہ
ہوتا ہے، اگر یہ بات صرف ”صدمہ“ کی حد تک ہو تب بھی کوئی مضائقہ
نہیں، لیکن بعض اوقات یہ بات بے چینی اور پریشانی کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔

اس کے بارے میں حضرت والا فرما رہے ہیں کہ معمولات چھوٹ جانے پر پریشانی ٹھیک نہیں، اس لئے کہ ان سارے ذکر و اذکار، اور ادا اور معمولات کا حاصل ”بندگی“ اور اظہارِ عبدیت ہے۔ لہذا اگر بیماری کی وجہ سے وہ معمولات چھوٹ گئے تو اس بیماری کی حالت میں انسان کے اندر جو شگستگی اور عاجزی آ جاتی ہے، اس شگستگی کی وجہ سے خود ”عبدیت“ پیدا ہو رہی ہے اور خود بخود حاصل ہو رہی ہے۔

رخصتوں پر عمل کرنا بھی پسندیدہ ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی رخصتیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کا یہی حال ہے، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رِخْصَةً كَمَا يُحِبُّ أَنْ

تُؤْتَى عِزًّا مِمَّ -

(کنز العمال، حدیث نمبر ۵۳۳۲)

یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح عزیمت پر عمل کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اسی طرح رخصتوں پر بھی عمل کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لئے کہ عزیمت اللہ جل شانہ کی عظمت کا حق ہے، اور رخصت انسان کی ”عبدیت“ کا حق ہے اور ”بندگی“ کا اظہار ہے۔ اللہ جل شانہ کے سامنے انسان کیا بہادری دکھائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو شگستگی اور عبدیت اور عاجزی کا اظہار کرنا چاہئے اور ”رخصت“ پر عمل کرنے سے انسان کے اندر عاجزی، عبدیت اور شگستگی کی

کیفیت پیدا ہوتی ہے اور یہ کیفیت انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے، لہذا رخصتوں پر عمل کرنے سے کبھی دل تنگ نہ کرنا چاہئے۔

رخصت پر عمل کرنے سے دل تنگ نہ ہو

انسان اس بات کا تو اطمینان کر لے کہ آیا رخصت پر عمل کرنے کا موقع ہے یا نہیں؟ اور اس وقت شرعاً رخصت پر عمل کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ لیکن جب یہ اطمینان ہو جائے کہ شرعی اعتبار سے رخصت پر عمل کرنے کی گنجائش ہے تو اب رخصت پر عمل کرنے سے دل تنگ نہ کرے، اس موقع پر صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے۔

یہ روزہ کس کے لئے رکھ رہے ہو؟

یہ روزہ تم کس کے لئے رکھ رہے ہو؟ اگر اپنی ذات کے لئے اور اپنی خوشی کے لئے روزہ رکھ رہے ہو، اگر اپنا شوق پورا کرنے کے لئے روزہ رکھ رہے ہو، اور پھر بیماری کی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو ضرور اس بات پر صدمہ کرو کہ بیماری آگئی اور اس کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا۔ لیکن اگر یہ روزہ اللہ کے لئے رکھ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بیماری میں روزہ چھوڑ دو تو پھر روزہ کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہے، کھا کر وہ مقصود حاصل ہے جو نہ کھانے سے حاصل ہوتا ہے، اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کھاؤ، تو اب کھانا ہی چاہئے، اس لئے کہ دین کی حقیقت ”اتباع“ ہے، اس اتباع میں

دل تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ روزہ نہ رکھنا بھی بعض حالات میں پسندیدہ ہو جاتا ہے، اور بعض حالات میں ”واجب“ ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ چاہے بیماری آئے چاہے کچھ ہو جائے، میں تو روزہ رکھوں گا۔ یاد رکھئے! یہ چیز اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اتباع کے خلاف ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بہادری دکھانا ہے کہ ہم بڑے بہادر ہیں کہ بیماری میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔

سفر میں روزہ رکھنا

اسی لئے حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا:

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ۔

(نسائی، کتاب الصوم، باب ما کره من الصيام في السفر)

سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں۔

اس سفر سے مراد وہ سفر ہے جس میں مشقت زیادہ ہو، ایسے سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ اب ذرا سوچئے! ایک طرف تو روزہ کے فوائد بیان کئے جا رہے ہیں اور اس پر اجر و ثواب بیان کیا جا رہا ہے اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ روزہ میرے لئے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اسی روزے کے بارے میں فرمایا کہ اب روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں، کیوں؟ اس لئے کہ اب ہمارا حکم نہیں ہے، جب ہمارا حکم نہیں تو اب روزہ رکھنا کوئی فضیلت کا کام نہیں،

کوئی نیکی کا کام نہیں۔

جیسا وہ کہیں وہ کرو

بہر حال، اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری دکھانا کوئی اچھی بات نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے خود بیماری دیدی، خود عذر دیدیا تو اس کا حق یہ ہے کہ اس وقت میں رخصت پر عمل کرو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

چوں کہ برمیخت جن دو بست باش

چوں کشاید چابک و برجتہ باش

یعنی جب باندھ کر ڈال دیں تو اب بندگی کا تقاضہ یہ ہے کہ بندھے پڑے رہو، ہاں جب وہ کھول دیں تو پھر خوب دڑنگیاں لگاؤ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں رخصت عطا فرمادی ہے، اس رخصت پر عمل کرو، لہذا رخصت پر عمل کرنے سے کبھی دل تنگ نہ کرو۔

حضور ﷺ آسانی اختیار فرماتے

بعض لوگوں کی طبیعت سخت کوشی کی ہوتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مشقت کا کام کریں، اور مشقت کو ڈھونڈتے ہیں، اس لئے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں فضیلت زیادہ ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ یہ بات بہت سے بزرگوں سے بھی منقول ہے، لہذا ان کی شان میں کوئی ایسا کلمہ نہیں کہنا چاہئے جو گستاخی کا ہو، لیکن سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے، سنت وہ ہے جو

حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان فرمائی گئی کہ:

ماخیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین

أمرین قط إلا أخذ أيسرهما۔

(صحیح بخاری، کتاب الانبیاء، باب صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم)

یعنی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان تر کو اختیار فرماتے۔ اور یہ آسان تر کو اختیار کرنا کیا ”معاذ اللہ“ آپ کی تن آسانی کی وجہ سے تھا؟ یا آپ مشقت سے بچنے کے لئے ایسا فرماتے تھے؟ یاد نیاوی راحت اور آرام پانے کے لئے تھا؟ ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ تن آسانی کے لئے آسان راستہ اختیار فرماتے تھے۔ بلکہ اصل بات یہ تھی کہ آسان راستہ اختیار کرنے میں عبدیت اور بندگی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری نہیں دکھانی بلکہ شلنگی کا اظہار کرنا ہے کہ میں عاجز بندہ ہوں میں تو آسان راستہ اختیار کرتا ہوں۔ یہ بندگی ہے، اس بندگی کے اظہار کے لئے آسان راستہ اختیار فرماتے، اگر مشقت والے راستے کو اختیار فرماتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی بہادری دکھاتے۔

توڑنا ہے حسن کا پندار کیا؟

ہمارے بڑے بھائی تھے، بھائی ذکی کیفی مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین، بڑے اچھے شعر کہا کرتے تھے، ان کا دیوان بھی

”کیفیات“ کے نام سے چھپ گیا ہے، اس بات کو انہوں نے ایک شعر میں بیان کیا ہے، آج لوگ ان کے اس شعر کو سمجھتے نہیں ہیں، فرمایا:

اس قدر بھی ضبطِ غم اچھا نہیں
توڑنا ہے حسن کا پندار کیا؟

کیا تم حسن کا پندار توڑنا چاہتے ہو کہ تم مجھے جتنی بھی مشقتیں دو، میں اس کو برداشت کر لوں گا، العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری نہیں دکھانی، وہاں تو شکستگی پسند ہے۔

ایک بزرگ کا قصہ

ایک مرتبہ ایک بزرگ دوسرے بزرگ کی عیادت کے لئے گئے، وہ بزرگ درد اور تکلیف میں مبتلا تھے، ان کو جا کر دیکھا کہ وہ اسی درد اور تکلیف کی حالت میں ”الحمد للہ الحمد للہ“ کا ورد کر رہے ہیں۔ جو بزرگ ان کی عیادت کے لئے گئے تھے، انہوں نے جا کر کہا کہ آپ کا یہ مقام تو بہت اونچا ہے کہ آپ اس حالت میں بھی شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن ایک بات بتا دوں کہ جب تک تم ”الحمد للہ الحمد للہ“ کا ورد جاری رکھو گے، صحت حاصل نہیں ہوگی، اور یہ درد اور تکلیف دور نہیں ہوگی۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ تھوڑا سا ہائے ہائے کرو، اور اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ! یہ تکلیف دور فرما دیجئے۔

پیغمبرانہ عمل

جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا تھا:
 اِنِّیْ مَسْنِیْ الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ۔

(سورۃ الانبیاء، آیت ۸۳)

پیشک مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب مہربانوں سے
 زیادہ مہربان ہیں۔

یہ ہے پیغمبرانہ عمل، جب تکلیف ہو یہ کہو کہ یا اللہ! مجھے یہ تکلیف ہے،
 اپنی رحمت سے دور فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ کو پکارو، اپنی تکلیف ان کو بتاؤ۔ یہ
 ”الحمد للہ الحمد للہ“ کا ورد کر کے تم ان کے سامنے اپنی بہادری جتارے ہو کہ
 میں کتنا ہی بیمار ہو جاؤں، پھر بھی ہائے ہائے نہیں کروں گا، یہ نہ ہو، بلکہ اللہ
 تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو، اسی کا نام ”بندگی“ ہے۔ جب وہ یہ چاہ
 رہے ہیں کہ اپنی تکلیف ہمارے سامنے بیان کرو، تو اب بیان کرنے میں اظہار
 عبدیت اور بندگی ہے، ہاں یہ بیان شکوہ کے طور پر نہ ہو، بلکہ اپنی عاجزی کے
 اظہار کے لئے ہو کہ یا اللہ! میں تو عاجز بندہ ہوں، آپ صحت عطا فرما دیجئے۔

بندگی کا تقاضہ

بہر حال! بندگی کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی عزیمت پر بھی عمل کرے اور
 رخصت پر بھی عمل کرے، اور رخصت پر عمل کرتے وقت دل تنگ نہ کرے،

اور اگر بالفرض طبعی صدمہ ہو اور یہ طبعی صدمہ ہوتا ہے، اس لئے کہ ایک شخص ساری عمر روزہ کا پابند رہا، اب بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے، تو روزے کے چھوٹنے پر صدمہ تو ہوگا، یہ صدمہ برا نہیں ہے، بلکہ اس صدمہ پر اور اجر و ثواب ہوگا، انشاء اللہ، لیکن اس رخصت پر عمل کرنے میں دل تنگ نہ کرے، اس کا نام عیدیت اور بندگی ہے۔

انسان کا اعلیٰ ترین مقام

یاد رکھیے! انسان کا اعلیٰ ترین مقام جس سے اعلیٰ مقام انسان کے لئے کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ ”عبدیت“ کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی ”بندگی“ کا مقام ہے، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اوصاف بیان فرمائے، فرمایا:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيًا
إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَبِسِرٍّ جَمُوعًا ۝

(الاحزاب، آیت ۳۵-۳۶)

اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے بیشک آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے اور آپ بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے ہیں اور آپ ایک روشن چراغ ہیں۔

دیکھئے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے کیسے کیسے اوصاف بیان فرمائے، اور کیسے کیسے انداز سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو تعبیر فرمایا، لیکن قرآن کریم میں جہاں ”معراج“ کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور اونچے مقامات کی سیر کرائی، وہاں پر جو لفظ بیان فرمایا، وہ یہ تھا:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -

(سورۃ الاسراء، آیت 1)

یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے وقت مسجدِ حرام سے۔

اس موقع پر نہ شَهِدَا کا لفظ بیان فرمایا، نہ مُبَشِّرَا، نہ ذَاعِبَا، نہ سِرَّاجَا کا لفظ، نہ مُنِيرَا کا لفظ بیان فرمایا، بلکہ یہاں صرف ایک لفظ ”عبد“ کو بیان فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے لئے سب سے اونچا مقام ”عبدیت“ کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی، اپنی شکستگی اور اپنی عاجزی کے اظہار کا مقام ہے۔

اللہ تعالیٰ شکستہ دلوں کے ساتھ ہوتے ہیں

اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ:

ان الله مع المنكسرة قلوبهم -

یعنی اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔

مثلاً بیماری کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، اور روزہ چھوٹ جانے کے صدمہ کی وجہ سے دل ٹوٹا اور دل شکستہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس دل شکستگی کے ساتھ ہوتے ہیں اور شکستہ دل کو نواز دیتے ہیں۔ یہ دل کا ٹوٹنا، چاہے صدموں سے ہو، چاہے غموں سے ہو، یا افکار کی وجہ سے ہو، یا خوف خدا سے ہو، یا فکر آخرت سے ہو، کسی طرح بھی ہو، جب دل ٹوٹتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مورد بنتا ہے۔ دل پر جو دن رات چوٹیں پڑتی رہتی ہیں کہ کبھی کوئی تکلیف آگئی، کبھی کوئی صدمہ آگیا، کبھی کوئی پریشانی آگئی، یہ دل کو توڑا جا رہا ہے، کیوں توڑا جا رہا ہے؟ یہ اس لئے توڑا جا رہا ہے کہ اس دل کو اپنی رحمتوں کا اور اپنے فضل و کرم کا مورد بنانا ہے۔

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئندہ ہے وہ آئندہ
جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئندہ ساز میں
یہ دل جتنا ٹوٹے گا، اتنا ہی اس کے بنانے والے کی نگاہ میں عزیز ہوگا۔

اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر سنایا کرتے تھے، حضرت والا کو شعر بھی بہت منتخب یاد تھے، فرماتے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو توڑتے ہیں تو درحقیقت اس شخص کو کہیں بلند یوں تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے، یہ صدمے، یہ غم، یہ افکار جو انسان پر آتے ہیں، یہ مجاہدہ اضطراری ہوتا ہے، اور مجاہدہ اضطراری انسان کی اتنی تیزی سے ترقی کراتا ہے

کہ عام حالات میں اتنی تیزی سے ترقی نہیں ہو سکتی۔

اس پر ایک شعر سناتے:

یہ کہہ کے کاسہ ساز نے پیالہ پلک دیا

اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے

جب یہ دل ٹوٹ کر بنتا ہے تو کچھ اور ہی بنتا ہے، اس وقت وہ دل اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا اور اس کی رحمتوں کا مور و بنتا ہے۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ غزل کا ایک شعر سنایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ شعر تو غزل کا ہے لیکن اس میں یہی مضمون آیا ہے، فرمایا:

جتان ماہ و ش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں

جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں

یعنی اللہ تعالیٰ اس ٹوٹے ہوئے دل میں اپنی تجلی فرماتے ہیں۔ اس لئے ان صدموں سے، ان غموں سے اور جو آنسو گر رہے ہیں، ان سے ڈرو نہیں، یہ دل جو ٹوٹ رہا ہے، یہ آپس جو نکل رہی ہیں، ان سے گھبراؤ نہیں، اگر دل میں اللہ جل جلالہ پر ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تصدیق دل میں ہے تو سب آپس اور کراہیں تمہیں کہیں سے کہیں پہنچا رہی ہیں۔

وادی عشق بے دور و درازت دے

طے شود جادہ صد سالہ باھے گاھ

یعنی وادی عشق اگرچہ بہت دور ہے، لیکن بعض اوقات سو سال کا راستہ ایک آہ میں طے ہو جاتا ہے۔ اس لئے اپنے اندر شکرگئی پیدا کرو، اسی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا اور منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ عاجزی اور شکرگئی پیدا فرمادے۔ آمین

وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



مجلس نمبر ۴۴

ذکر میں دل نہ لگنے کے اسباب

جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی



مشکوٰۃ و ترقیب
محمد عبید اللہ نقوی

میمن اسلامک پبلشرز

۱/۱۸۸، لیاقت آباد، کراچی ۱۱

مقام خطاب : جامع مسجد دارالعلوم کراچی
 وقت خطاب : بعد نماز ظہر۔ رمضان المبارک
 اصلاحی مجالس : جلد نمبر ۳
 مجلس نمبر : ۴۴
 صفحات : ۱۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

مجلس نمبر ۴۴

ذکر میں دل نہ لگنے کے اسباب

الحمد لله رب العالمين - والعاقبة للمتقين -
والصلاة والسلام على رسوله الكريم - وعلى
آله واصحابه اجمعين - أما بعد!

ذکر میں فائدہ ”قصد“ پر موقوف ہے

حضرت والا نے ارشاد فرمایا:

صرف دل سے ذکر کرنا بھی نافع ہے جب بقصد ہو ورنہ
بلا قصد نفع مقصود حاصل نہیں ہوتا، قلب اور زبان دونوں
کو جمع کرنا زیادہ نافع ہے۔

(انفاس بیسی ص ۶۸)

یعنی اگر زبان سے ذکر نہیں ہو رہا ہے، صرف دل سے ذکر ہو رہا ہے، اور دل سے

ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کے الفاظ کا تصور دل میں لائے اور دل دل میں وہ الفاظ دہراتار ہے، اگرچہ زبان نہ بولے، تو اگر قصد اور ارادے سے دل دل میں وہ الفاظ دہراتار ہے تو یہ بھی نافع ہے، لیکن اگر بلا قصد الفاظ دہراتار ہے تو پھر مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔

(صحیح بخاری، کتاب الصوم، باب من صام رمضان ایماناً و احتساباً)

یعنی جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

اس حدیث میں روزے کے نتیجے میں گناہوں کی مغفرت کی دو شرطیں بیان فرمائیں، ایک یہ کہ وہ شخص مؤمن ہو، دوسرے یہ کہ "احتساب" ہو، احتساب کے معنی ہیں کہ ثواب کی نیت سے روزہ رکھا ہو، لہذا جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے روزہ رکھے گا تو اس وقت یہ فائدہ حاصل ہوگا۔

لذت کے حصول کیلئے روزہ رکھنا

اس لئے اگر کسی شخص نے صرف روزہ رکھنے کی نیت سے روزہ رکھا تو فقہی اعتبار سے روزہ ہو جائے گا، لیکن اس روزے کا مقصود چونکہ اللہ تعالیٰ کو

راضی کرنا اور ثواب حاصل کرنا نہیں تھا، اس لئے اس روزے پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ ایک صاحب مجھے ملے جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بہت موڈرن تھے، وہ دین کے دوسرے ارکان پر تو عامل نہیں تھے، لیکن روزے کے بہت پابند تھے۔ ایک دن ذکر آیا تو میں نے ان سے کہا کہ ماشاء اللہ آپ روزہ بڑی پابندی سے رکھتے ہیں۔ جواب میں وہ صاحب کہنے لگے کہ اگر شریعت نے روزہ رکھنے کا حکم نہ بھی دیا ہوتا، تب بھی انسان کی صحت کے لئے سال بھر میں ایک ماہ روزہ رکھنا ضروری ہے، میں اس لئے روزہ رکھتا ہوں کہ ایک ماہ تک روزہ رکھنے کے نتیجے میں صحت بہت عمدہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ افطار کے وقت کھانے میں جو لذت آتی ہے، وہ سارے سال کسی اور وقت کھانے میں نہیں آتی، ان دو وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اب دیکھئے! وہ شخص سارا مہینہ روزہ رکھ رہا ہے، لیکن اس کا مقصد افطار کی لذت حاصل کرنا ہے، اور اپنی صحت اور تندرستی حاصل کرنا ہے، لہذا وہ روزہ ”احتساب“ یعنی طلب ثواب کے لئے اور طلب اجر کے لئے نہ ہوا، ایسے روزے پر وہ فضیلت مرتب نہیں ہوگی جس کا حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اور چونکہ روزہ رکھے کا قصد تھا، اس لئے اگر کسی مفتی سے پوچھا جائے گا کہ یہ روزہ ہوا یا نہیں؟ وہ مفتی یہی جواب دے گا کہ روزہ ہو گیا، لیکن اگر ”صوفی“ سے پوچھو تو یہ جواب دے گا کہ وہ روزہ نہیں ہوا، یعنی اس روزے کا جو مقصود تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔

زبان اور دل دونوں سے ذکر کرے

اسی لئے حضرت والانے اس لفظ میں فرمایا کہ ”ذکر“ بھی اسی وقت نافع ہوتا ہے جب بالقصد کیا جائے، اگر ویسے ہی زبان ذکر کرنے کے لئے چل پڑی اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود نہیں تھا، تو اس ذکر سے نفع حاصل نہیں ہوگا۔ پھر آگے حضرت والانے فرمایا کہ:

قلب اور زبان دونوں کو ذکر میں جمع کرنا زیادہ نافع ہے۔

یعنی زیادہ نفع اس میں ہے کہ زبان بھی ذکر کرے اور قلب میں بھی اس ذکر کا تصور جمائے، ایسا ذکر زیادہ فائدہ مند ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں دو عضو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہیں، اگر صرف ”قلب“ سے ذکر کرتا تو صرف ایک عضو مشغول ہوتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قلب کا حال یہ ہے کہ اگر زبان اس کے ساتھ ذکر نہ کرے تو یہ بہت جلد پھسل جاتا ہے، ابھی ذکر کرنا شروع کیا، اچانک دل میں کوئی خیال آیا، بس وہ دل پھسل گیا۔ لیکن اگر زبان بھی ذکر کر رہی ہے تو جب تک انسان اس کو روکنے کا قصد نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ چلتی رہتی ہے، لہذا زبان سے ذکر کرنے کے نتیجے میں ذکر کے اندر استقامت، استقلال اور دوام پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان اس دھوکے میں نہ رہے کہ بس صرف قلبی ذکر میں مشغول رہنا کافی ہے، بلکہ ذکر قلبی کے ساتھ ذکر لسانی بھی جاری رکھے۔

ذکر میں دل نہ لگنے کے اسباب

ایک ملفوظ میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا:

دل نہ لگنے کی بہت صورتیں ہیں، کبھی تو کسی کام کے تعلق کی وجہ سے پریشانی ہو جاتی ہے، کبھی کسی عضو میں کچھ مرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل کی بھی پریشانی ہو جاتی ہے، کبھی بھوک، کبھی گناہ کا ارتکاب، ان اسباب میں سے جس کا ذوق اختیار میں ہو، اسے تو دفع کر کے ذکر میں مشغول ہو، بھوک ہو، کھانا میسر ہو، کھالے، تعلق اگر ناجائز ہے تو چھوڑ دے پھر ذکر میں مشغول ہو، اگر اس پر بھی دل نہ لگے تو کچھ پروانہ کرے، ذکر کو مقصود سمجھ کر پورا کر لے، انشاء اللہ ذکر کی برکت سے حالت کی اصلاح ہو جائے گی۔

(انفاس عینی ص ۶۸)

کام پہلے کر لو اور ذکر بعد میں کرو

بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں لیکن ذکر میں دل نہیں لگتا۔ اس کے بارے میں حضرت والا فرماتے ہیں کہ ذکر میں دل نہ لگنے کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ذکر میں دل اس لئے نہیں لگتا کہ دل میں کسی کام کے کرنے کا تقاضہ ہے، اس تقاضے کی وجہ سے دل نہیں لگتا،

ایسے وقت انسان یہ کرے کہ جس کام کا تقاضہ ہے پہلے اس کام کو پورا کرے، پھر اطمینان سے بعد میں ذکر کرے۔ دیکھئے نماز ہو یا ذکر ہو یا اوراد و وظائف ہوں یا دوسری عبادات ہوں، حتی الامکان فراغت ذہن کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنی چاہئے، لہذا اگر طبیعت میں کسی کام کا تقاضہ ہے تو پہلے اس کو پورا کر لے پھر عبادت کرے، اسی وجہ سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر پیشاب یا پاخانے کی حاجت ہے تو پہلے اس سے فراغت حاصل کر لو، یا مثلاً بھوک تیز لگ رہی ہے تو پہلے کھانا کھا لو۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل

روایت میں آتا ہے کہ

وكان ابن عمر يوضع له الطعام و تقام الصلاة

فلا يأتياها حتى يفرغ وانه يسمع قراءة الامام۔

(بخاری، کتاب الاذان، باب اذا حضر الطعام و اقيمت الصلاة، حدیث نمبر ۶۷۳)

بعض اوقات جماعت کھڑی ہو جاتی اور امام تلاوت شروع کر دیتے اور اس کی تلاوت کی آواز کانوں میں آرہی ہوتی لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے کھانا کھاتے رہتے۔ اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد نماز میں شامل ہوتے۔ کسی نے ان سے کہا کہ حضرت! جماعت کھڑی ہوئی ہے اور آپ کھانے میں مشغول ہیں؟ جواب میں انہوں نے فرمایا:

لأن أجعل طعامي صلاة أحب إلي من أن أجعل

صلاتی طعاماً

یعنی میں اپنے کھانے کو نماز بنا لوں، یہ صورت بہتر ہے نسبت اس کے کہ نماز کو کھانا بنا لوں۔ اس لئے کہ اگر شدید بھوک ہونے کی حالت میں جا کر نماز میں کھڑا ہو جاؤں گا تو دل و دماغ تو کھانے میں لگا رہے گا، نماز میں دل نہیں لگے گا۔ اس کے برخلاف اگر میں جماعت کھڑی ہونے کی حالت میں کھانا کھا رہا ہوں گا، تو دل نماز کی طرف لگا ہو گا کہ جلدی سے کھانے سے فارغ ہو جاؤں اور جا کر جماعت میں شامل ہو جاؤں، اب یہ کھانا بھی نماز بن جائے گا۔ اور کھانے کو نماز بنا لوں یہ بہتر ہے نسبت اس کے کہ نماز کو کھانا بنا لوں، اس لئے میں کھانا کھا رہا ہوں۔

نماز فارغ ہونے کی چیز نہیں

ایک جملہ ہماری اور آپ کی زبانوں پر بکثرت آتا ہے اور اس کی طرف دھیان نہیں جاتا، لیکن ایسی باتوں کی طرف بزرگوں کی نگاہ جاتی ہے، عام آدمی کی نگاہ نہیں جاتی۔ ہماری زبانوں پر اکثر یہ جملہ رہتا ہے کہ ذرا نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے، یا ذرا نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر اطمینان سے بات کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ ذرا نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر کچھ بات کریں گے۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ یہ کیا تم نے کہہ دیا کہ نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر بات کریں گے۔ یاد رکھئے! نماز فارغ ہونے کی چیز نہیں،

تمہاری بات کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایک بوجھ ہے، اس سے جلد از جلد فارغ ہونا چاہتے ہو، اور اصل کام تمہارا وہ ہے جس کی طرف تم بعد میں متوجہ ہونا چاہتے ہو، مثلاً اگر تم نے یہ کہا کہ ذرا نماز سے فارغ ہو جائیں پھر کھانا کھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مقصود تو کھانا ہے، نماز تو ایک بوجھ ہے جس کو جلد از جلد نلکا کر اس سے فارغ ہونا چاہتے ہو۔ فرمایا کہ یہ بے ادبی کی بات ہے اور بالکل غلط بات ہے۔ قرآن کریم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

(سورۃ الانشراح، آیت ۷)

یعنی جب آپ ﷺ اور کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اب ہمارے سامنے کھڑے ہو کر تھکنے، نماز میں اور دوسری عبادت وغیرہ میں۔ لہذا اور کاموں سے فارغ ہو کر نماز کی طرف متوجہ ہوں، نہ یہ کہ نماز سے فارغ ہو کر اور کاموں کی طرف متوجہ ہوں۔ حالانکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کام کیسے تھے، کیا وہ روپے پیسے جمع کر رہے تھے؟ یا کوئی ملازمت کر رہے تھے؟ یا کوئی مال و جائیداد بنا رہے تھے؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ ﷺ کی ساری مصروفیات دین ہی کی مصروفیات تھیں، کہیں جہاد کی مصروفیت، کہیں تعلیم کی مصروفیت، کہیں تربیت کی مصروفیت، کہیں امور سیاست اور امور مملکت کی مصروفیت، کہیں ازواجِ مطہرات کی دلداری، کہیں صحابہ کرامؓ کی حاجت روائی وغیرہ، یہ سب کام بھی دین کے کام تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ

نے ان سے فرمایا کہ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ۔

نماز حسن لعینہ ہے

وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سب کام حسن لغیرہ تھے، اور ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ہماری تسبیح و تقدیس بیان نایہ حسن لعینہ ہے، وہ کام مقصود لغیرہ تھے اور یہ کام مقصود لعینہ ہے۔ دین کے دوسرے کاموں میں اور عبادات میں یہی فرق ہے، اس لئے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مقصود لغیرہ سے فارغ ہو کر مقصود لعینہ کی طرف آؤ۔ لہذا یہ کہنا بے ادبی ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر کھانا کھائیں گے، اس لئے کہ نماز فارغ ہونے کی چیز نہیں بلکہ کھانے سے فارغ ہو کر نماز پڑھو، پہلے ذہن کو کھانے سے فارغ کرو، پھر مقصود اصلی کی طرف جاؤ۔

شیخ حسن مشاط کا معمول

مکہ مکرمہ میں میرے ایک شیخ تھے، حضرت شیخ مشاط مالکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ ۱۹۶۳ء میں جب میں مکہ مکرمہ حاضر ہوا تو اس وقت وہاں کافی طویل قیام کرنے کا موقع ملا، وہ روزانہ عصر کے بعد حرم شریف میں حدیث شریف کا درس دیا کرتے تھے، ان کے درس میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی، بڑے اللہ والے بزرگ تھے، عربوں میں ایسے بزرگ بہت کم دیکھے ہیں، اتباع سنت اور بہترین اخلاق کے پیکر تھے، ان کی طرف لوگوں کا رجوع بہت تھا، کوئی ان سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی مشورہ کر رہا

ہے، کوئی دوسری باتیں کر رہا ہے۔ میں نے ان کا یہ معمول دیکھا کہ مغرب کی نماز کے بعد فوراً دو سنتیں پڑھتے اور اس کے بعد آنے والے لوگوں سے ملاقات کرتے، ان کے سوالات کا جواب دیتے، یہاں تک کہ بعض اوقات آدھا گھنٹہ گزر جاتا۔ جب سب لوگوں کو جواب دے کر فارغ ہو جاتے اور سب لوگوں کو رخصت کر دیتے تو پھر کھڑے ہو کر ”اللہ اکبر“ کہہ کر اذانین شروع فرما دیتے۔

اس معمول میں دو فائدے

دوسرے عام طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی اذانین پڑھنا چاہے تو مغرب کے بعد دو سنتیں پڑھنے کے بعد چھ رکعت اذانین ساتھ ہی پڑھ لے، اگر لوگ انتظار کر رہے ہیں تو کرتے رہیں۔ لیکن ان کا یہ معمول تھا اور اس میں دو فائدے تھے، ایک فائدہ تو یہ تھا کہ حاجت مندوں کی حاجت جلدی رفع ہو جائے اور وہ جلدی فارغ ہو جائیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے انتظار کی حالت میں نماز میں مشغول ہوں گے تو پھر اطمینان اور خشوع کے ساتھ نماز میں دل نہیں لگے گا، اس لئے ان کو نماز سے پہلے فارغ کر دیا، جب اکیلے رہ گئے تو اب اذانین شروع کر دیں۔ بہر حال، جس چیز سے دل مشغول ہو، انسان پہلے اس سے فارغ ہو جائے۔

نمازی کا انتظار کس جگہ کیا جائے؟

دیکھئے! یہ ادب بھی یاد رکھنے کا ہے، اکثر لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں،

وہ یہ کہ ایک آدمی نماز یاد کر میں مشغول ہے اور آپ کو اس سے کچھ کام ہے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس کو کام ہوتا ہے وہ سر پر آکر کھڑا ہو جاتا ہے یا اس کے پاس جا کر اس انداز سے بیٹھ جاتا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم تمہارے انتظار میں ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کا دھیان اس طرف لگ جاتا ہے کہ ایک شخص میرا انتظار کر رہا ہے، اور اس کا قلب اس کی طرف مشغول ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں نماز کی طرف کما حقہ دھیان نہیں رہتا۔ اس لئے یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے، اس میں ایک طرف تو اس نماز کی بے ادبی ہے اور دوسری طرف اس نماز پڑھنے والے کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ادب یہ ہے کہ جس شخص سے آپ کو کام ہو اور وہ نماز کے اندر مشغول ہو تو آپ اتنی دور بیٹھ کر انتظار کریں جس سے اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہے اور جب وہ سلام پھیر لے تو اس وقت اس سے رابطہ کر لیں، پہلے سے بالکل قریب جا کر بیٹھ جانا بے ادبی کی بات ہے۔ یاد رکھئے! یہ سب دین کے آداب ہیں، دین سے خارج نہیں ہیں، ان کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی دوسری عبادات کی پابندی ضروری ہے۔

پہلے دوسرے کام پھر نماز

بہر حال! اگر بھوک کی وجہ سے نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے تو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو، اگر پیاس لگی ہوئی ہے تو پہلے پانی پی لو پھر نماز پڑھو، اگر نیند آ رہی ہے اور تم نفل پڑھنا چاہ رہے ہو یا تاوت کرنا چاہ رہے ہو تو حدیث شریف

میں آتا ہے کہ پہلے سو جاؤ پھر نیند سے فارغ ہو جاؤ اور جب طبیعت بحال ہو جائے تو پھر نماز شروع کر دو۔

غیر اختیاری الجھن کی صورت میں ذکر نہ چھوڑو

لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے وقت ذہن پر ایسی الجھن سوار ہوتی ہے جس کا دفع کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، مثلاً سر میں درد ہو رہا ہے اور اس درد کی وجہ سے ذکر میں دل نہیں لگ رہا ہے یا کوئی اور ایسی بات ہے جو غیر اختیاری ہے تو ایسی صورت میں دل لگنے کی چنداں فکر مت کرو، اس لئے کہ ایسے موقع پر دل نہ لگنے سے کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ذکر بذات خود مقصود ہے، چاہے دل لگے یا نہ لگے، بس ذکر کو مقصود سمجھ کر کرتے رہو، انشاء اللہ اس ذکر کی برکت سے حالت کی اصلاح ہو جائے گی۔

طبیعت گھبرانے پر ذکر جلدی ختم کر دو

اگلے ملفوظ میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا:

ذکر و تلاوت میں جب طبیعت زیادہ گھبرانے لگے تو جلدی ختم کر دیا جائے، یہ ”عذر“ ہے اور ”عذر“ کی احکام میں تخفیف ہو جاتی ہے۔

(انفاس بیسی ص ۶۸)

یعنی ذکر کرتے وقت دل بہت زیادہ گھبرانے لگے تو ذکر جلدی ختم کر دینا چاہئے، البتہ تھوڑا بہت دل گھبرانے کی تو پروا نہیں کرنی چاہئے، بلکہ اس وقت تو

زبردستی ذکر میں مشغول رہے لیکن زیادہ گھبراہٹ کے وقت ذکر چھوڑ دے۔

اکتاہٹ ہونے سے پہلے ذکر موقوف کر دو

ایک حدیث شریف کا مضمون ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جب تک ملال اور اکتاہٹ پیدا نہ ہو، اس سے پہلے پہلے ذکر کرتے رہو۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی عبادت کر دو تو اس عبادت کے جوش اور خواہش کو انتہاء تک نہ پہنچاؤ، بلکہ اس وقت عبادت کو چھوڑ دو جبکہ ابھی کچھ خواہش باقی ہو۔ اس کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ جو ”چک ڈور“ ہوتی ہے (جس کو آج کل ”چکی“ یا ”لٹو“ کہتے ہیں) جس سے بچے کھیلتے ہیں، اس کے اوپر دھاگہ پلیٹ دیتے ہیں اور اس کو پھینکتے ہیں، پھر اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، وہ کھینچتی ہوئی چلی آتی ہے، ”چک ڈور“ کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پھینکتے وقت اس کے اوپر لپٹا ہوا پورا دھاگہ کھول دیا تو وہ واپس نہیں آتی، لہذا جب تھوڑا سا دھاگہ اس کے اوپر لپٹا ہوا رہ جائے اس وقت اس کو کھینچنا پڑتا ہے، اس وقت وہ واپس آ جاتی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال دے کر فرماتے تھے کہ یہی معاملہ عبادت کا ہے، جب طبیعت میں عبادت کی تھوڑی سی خواہش باقی ہو، اس وقت عبادت کرنا چھوڑ دو، ساری خواہش اور جوش کو ایک مرتبہ میں ٹھنڈا مت کر دو، اس لئے کہ اگر ایک مرتبہ میں تم نے سارا جوش ٹھنڈا کر لیا تو اب دوبارہ عبادت کرنے کی طرف طبیعت راغب نہیں ہوگی۔ اس لئے

حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ آکٹاہٹ سے پہلے پہلے عبادت کو چھوڑ دو، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ توفیق دیدیں گے، اور طبیعت میں بشاشت آجائے تو دوبارہ شروع کر دو۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ



مجلس نمبر ۲۵

دین احکامات ماننے کا نام ہے

جلس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی



شیخو ترجمین
محمد عربی رائد

میعین اسلامک پبلشرز

۱/۱۸۸ ریاست آباد کراچی

مقام خطاب : جامع مسجد دارالعلوم کراچی
 وقت خطاب : بعد نماز ظہر۔ رمضان المبارک
 اصلاحی مجالس : جلد نمبر ۳
 مجلس نمبر : ۳۵
 صفحات : ۱۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

مجلس نمبر ۲۵

دین خواہشات کے بجائے احکامات کے ماننے کا نام ہے

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
والصلاة والسلام على رسوله الكريم
وعلى آله واصحابه اجمعين - اَمَّا بَعْدُ!

اذان کے وقت ذکر موقوف کر دینا چاہئے

حضرت والائے ارشاد فرمایا:

ذکر کی حالت میں اگر اذان ہونے لگے تو ذکر موقوف
کر کے جواب ہی دینا زیادہ مناسب ہے اور اس کو محل ذکر

نہ سمجھا جائے۔ سنن کی برکت سے ذکر کا معدن منور ہوتا ہے۔ اور اس سے ذکر میں زیادہ اعانت ہوتی ہے۔

(انفاس بحلی، ص ۶۹)

یعنی اگر انسان ذکر میں یا تلاوت میں مشغول ہو اور اس دوران اذان ہونے لگے تو اس وقت اس ذکر اور تلاوت کو موقوف کر کے اذان کا جواب دینا چاہئے اور اذان کے جواب کو مغل ذکر نہ سمجھنا چاہئے کہ اس اذان کے جواب کی وجہ سے ہمارا ذکر رک گیا، اس لئے کہ اتباع سنت کے لئے آپ ذکر سے رک گئے تو اس کے نتیجے میں ذکر کا معدن اسی سے منور ہو رہا ہے۔ اس لئے اذان کا جواب ذکر کے اندر مغل نہیں بلکہ ذکر کے اندر مزید معین ہے اور ذکر کو زیادہ پُر نور بنانے والا ہے، کیونکہ جب اذان کے جواب دینے کے لئے رک گئے تو یہ اتباع سنت میں رُکے اور اتباع سنت میں جو نور ہے وہ اس ذکر کو بھی مزید منور کر دے گا۔

تقاضہ وقت پر عمل کرنے کا نام دین ہے

اس کے ذریعہ وہی بات سامنے آتی ہے جو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو! تقاضہ وقت پر عمل کرنے کا نام ”دین“ ہے، جس وقت جس کام کا تقاضہ ہو، اس وقت وہ کام کرے، اسی کا نام ”دین“ ہے، یہ نہ ہو کہ اپنی طرف سے تجویز کر لیا کہ ہم تو فلاں کام کریں گے، اب فلاں کام کرنے کی فکر ہے، اگر درمیان میں کسی دوسرے کام کا تقاضہ آ گیا

تو دل کڑھ رہا ہے اور رنجیدہ ہو رہا ہے کہ میں نے جو کام تجویز کیا تھا وہ نہ ہوا۔
یہ بڑے کام کی بات ہے، خاص طور پر ہم جیسے لوگ جو طالب علمی کا
دعوئی کرتے ہیں اور لکھنے پڑھنے میں مشغول رہتے ہیں، ان کے لئے خاص طور
پر یہ بات بڑے کام کی ہے۔

تصنیف کے وقت ملاقات کرنے پر طبیعت میں گرانی

مجھے بہت سی مصروفیات اور مشاغل رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنا ایک
”نظام الاوقات“ بنا رکھا ہے کہ فلاں وقت میں یہ کام کروں گا اور فلاں وقت
میں یہ کام کروں گا، تصنیف کا بھی ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ یہ دو گھنٹے
کتب خانہ میں تصنیف کے کام میں لگاؤں گا، اب اس تصنیف کے وقت میں اگر
کوئی شخص ملاقات کے لئے آجاتا تو طبیعت پر بڑی گرانی ہوتی کہ اس نے
میرے کام میں خلل ڈال دیا، یا کوئی دوسری ضرورت اس وقت سامنے آجاتی تو
طبیعت پر بار محسوس ہوتا تھا اور بڑی تکلیف اور مشقت دل پر محسوس ہوتی تھی۔

یہ تصنیف کس لئے کر رہے ہو؟

میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس
بارے میں عرض کیا کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ حضرت والا نے ایسی بات
ارشاد فرمائی کہ الحمد للہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
نے دل میں ٹھنڈک ڈال دی۔ حضرت والا نے فرمایا کہ تمہیں یہ تکلیف اس وجہ

سے ہوتی ہے کہ تم نے اپنی طرف سے یہ تجویز کر لیا کہ فلاں وقت فلاں کام میں ہی ضرور صرف کرنا ہے، اگر اس وقت میں یہ کام کر لیا تب تو کامیابی ہے اور ورنہ ناکامی ہے۔ ارے بھائی! بتاؤ کہ یہ تصنیف کا جو کام کر رہے ہو یہ اللہ کے لئے کر رہے ہو یا اس کے ذریعہ مصنف بننے اور اپنی تصنیف کو مکمل کرنے کا شوق ہے، اگر تمہیں مصنف بننے اور اپنی تصنیف کو مکمل کرنے کا شوق ہے تو پھر تمہارا یہ رنج، یہ صدمہ، یہ تکلیف بالکل برحق ہے، اس لئے کہ تمہاری یہ تصنیف پوری نہ ہو سکی، کیونکہ درمیان میں کسی نے رکاوٹ ڈال دی، لیکن اگر اس کتاب کے لکھنے سے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے، تو پھر جب تک وہ لکھنے میں خوش ہیں، اس وقت تک لکھتے رہو، اور جب کوئی مہمان ملاقات کے لئے آگیا تو اب وہ اس میں خوش ہیں کہ تم اس مہمان کا اکرام کرو، اس لئے کہ مہمان کا اکرام کرنا سنت ہے۔ یا لکھنے کے دوران کوئی عارض پیش آ گیا، مثلاً اس وقت والدین کی خدمت کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا یا بیوی بچوں کی خدمت کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، یا شاگردوں کی خدمت کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، یا کسی بڑے نے اس وقت بلا لیا، تو اب اس وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ تصنیف کے کام کو چھوڑو اور وہ کام کرو، اب ان کی رضا اس میں ہے۔ لہذا تمہارا کیا نقصان ہے، جو کام تم پہلے کر رہے تھے، اس میں بھی رضا حاصل تھی، اور اب وہ کام چھوڑ کر دوسرا کام کر لیا تو یہ بھی ان کی رضا کے مطابق ہے، اور مقصود تو ان کی رضا ہے، چاہے اس سے حاصل ہو یا اس سے حاصل ہو۔ حضرت والا نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس کے بعد سے الحمد للہ دل میں غنڈک پڑ گئی۔

وہ بھی اللہ کیلئے یہ بھی اللہ کیلئے

انسان بہر حال انسان ہے، جب اس نے اپنا ایک نظام الاوقات بنا رکھا ہے، اگر اس میں خلل واقع ہوتا ہے تو اس سے تکلیف تو اب بھی ہوتی ہے، لیکن یہ تکلیف طبعی ہوتی ہے، عقلی تکلیف نہیں ہوتی، عقلی طور پر دل مطمئن ہے کہ الحمد للہ وہ کام بھی اللہ کے لئے کر رہے تھے اور یہ کام بھی اللہ کے لئے کر رہے ہیں۔ اس لئے جس وقت اللہ تعالیٰ جس کام کی توفیق دیدے یہ ان کا کام ہے۔ بہر حال، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ دیکھو کہ اس وقت کا شرعی تقاضہ کیا ہے۔

اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں

ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے کانٹے کی بات ان کے دل پر القاء فرماتے ہیں۔ وہ ایک بڑے کام کی بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے کہ بھائی! اپنا شوق پورا کرنے کا نام ”دین“ نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ”دین“ ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں فلاں کام کرنے کا شوق ہو گیا، اب تو ہم وہی کام کریں گے، مثلاً عالم بننے کا شوق ہو گیا کہ مدرسہ میں جا کر عالم بنیں گے، اس سے قطع نظر کہ تمہارے لئے عالم بننا جائز بھی ہے یا نہیں؟ یا مثلاً گھر میں ماں بیمار پڑی ہے یا باپ بیمار پڑا ہے اور کوئی دوسرا شخص دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے،

لیکن آپ ماں باپ کو بیمار چھوڑ کر مدرسہ میں چلے آئے، یہ دین نہیں ہے، یہ اپنا شوق پورا کرنا ہے، دین کا کام یہ ہے کہ ایسے وقت میں پڑھنا چھوڑ دو اور ماں کی اور باپ کی خدمت کرو۔

مفتی بننے کا شوق

یامثلًا ”مفتی“ بننے کا شوق ہو گیا، میرے پاس بہت سے طلبہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ”تخصّص“ پڑھنے کا شوق ہے، ”فتویٰ“ سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ والدین کا کیا منشا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ والدین تو ہمارے تخصّص پڑھنے پر راضی نہیں ہیں۔ اب دیکھئے کہ والدین تو راضی نہیں ہیں اور یہ ”مفتی صاحب“ بننا چاہتے ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ اپنا شوق پورا کرنا ہے۔

تبلیغ کرنے کا شوق

یامثلًا تبلیغی سفر کرنے کا شوق ہو گیا۔ ویسے تو تبلیغ کرنا بڑے ثواب کا اور بڑی فضیلت کا کام ہے، لیکن اس وقت گھر میں بیوی بیمار پڑی ہے اور دوسرا کوئی محرم دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اس وقت تبلیغ کے لئے سفر میں جانا اور چلہ لگانا دین نہیں، یہ اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ کیونکہ اس وقت دین کا اور وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس بیمار کی تیمارداری کرو، اس کا خیال کرو، یہ دنیا نہیں ہے بلکہ یہ بھی دین کا تقاضہ ہے۔

ایسے وقت میں جماعت کی نماز چھوڑ دو

حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص ویرانے میں اور جنگل میں ہے، آس پاس قریب میں کوئی آبادی نہیں ہے، اس ویرانے میں میاں بیوی اکیلے ہیں، اب شوہر صاحب کو مسجد جا کر جماعت سے نماز پڑھنے کا شوق ہو گیا، بیوی اس سے کہتی ہے کہ یہ ویرانہ ہے، جنگل ہے، اگر تم نماز پڑھنے کے لئے دور آبادی میں چلے جاؤ گے تو میں یہاں جنگل میں اکیلی رہ جاؤں گی اور مجھے تو یہاں جنگل میں اکیلے ڈر لگ رہا ہے اور ڈر کی وجہ سے میری جان نکلی جا رہی ہے، اس لئے آج تم نماز یہاں ہی پڑھ لو۔ لیکن شوہر صاحب توجہ نہ کیا جماعت سے نماز پڑھنے کے شوقین تھے، اس لئے وہ بیوی کو اکیلے چھوڑ کر مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ دین پر عمل نہیں ہے، بلکہ اپنا شوق پورا کرنا ہے، کیونکہ اس وقت کا تقاضہ یہ تھا کہ وہ اسی جگہ قریب میں نماز پڑھتا اور بیوی کی یہ تکلیف دور کرتا۔ یہ صورت اس وقت ہے جہاں ویرانہ ہے اور کوئی آبادی نہیں ہے اور نہ کوئی دوسرا دیکھ بھال کرنے والا ہے، لیکن جہاں آبادی کے اندر یہ صورت ہو، وہاں جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں ہی جانا چاہئے۔

بہر حال! کسی کو جہاد کرنے کا شوق ہے، کسی کو تبلیغ کرنے کا شوق ہے، کسی کو مولوی بننے کا شوق ہے، کسی کو مفتی بننے کا شوق ہے، اور اس شوق کا نتیجہ یہ ہے کہ دوسروں کے جو حقوق اپنے ذمے ہیں، ان کی ادائیگی کا کوئی خیال نہیں

کہ اس وقت میں ان حقوق کا تقاضہ کیا ہے۔

حضرت اولیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت اولیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھئے۔ اس سے بڑی سعادت دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، ”صحابیت“ کا وہ مقام جو کسی کو اس کے بغیر میسر آ ہی نہیں سکتا کہ وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، ”صحابیت“ کا یہ مقام ان سے چھڑا دیا گیا، کیوں چھڑا دیا گیا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے چھڑا دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ ”اولیس قرنی“ ایک بزرگ ہیں جو قرن سے تشریف لائیں گے، جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے اپنے حق میں مغفرت کی دعا کرانا۔

شیخ کی ضرورت ایسے موقع پر ہوتی ہے

یہ مقام اتباع سے اور وقت کے تقاضے پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے، یہ نہیں کہ دل میں کسی عمل کا شوق پیدا ہو گیا اور وہ عمل کرنا شروع کر دیا، اس کے لئے کسی رہنما کی اور شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کسی شیخ سے تعلق قائم کرو، یہ درحقیقت اسی واسطے ہے، ایسے موقع پر وہ صحیح رہنمائی کرتا ہے، ورنہ آدمی افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

میں ان کاموں کا مخالف نہیں ہوں

یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں، ان باتوں کو کوئی شخص میری طرف منسوب کر کے اس طرح آگے نقل کر دے گا کہ وہ صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ مفتی بننا بُری بات ہے، وہ تو تبلیغ کے مخالف ہیں، وہ تو تبلیغ کے خلاف کہہ رہے تھے کہ تبلیغ میں چلہ لگانے نہیں جانا چاہئے، اور وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جہاد میں نہیں جانا چاہئے۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب اپنے اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام ہیں، یہ دیکھو کہ کس وقت کیا تقاضہ ہے؟ اس وقت کیا مطالبہ ہو رہا ہے، اس مطالبے کے مطابق عمل کرو، اس تقاضے پر عمل کرو، یہ نہ ہو کہ اپنے دماغ سے ایک راستہ تجویز کر لیا کہ مجھے تو یہ کرنا ہے اور پھر اس کے مطابق چل کھڑے ہوئے، یہ دین نہیں ہے، دین یہ ہے کہ ہر موقع پر یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کس بات کا حکم دے رہے ہیں؟

بھگتی نے خوب کہا ہے۔

میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ

جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے

بظاہر دیکھنے میں تو وہ وفا معلوم ہو رہی ہے، لیکن جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے وہ کیسی وفا ہے؟ وہ توبے وفا کی ہے۔

سہاگن وہ جسے پیا چاہے

لہذا اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ میرے اس عمل سے وہ راضی ہیں یا نہیں؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہندی زبان کی ایک مثل ہے کہ:

سہاگن وہ جسے پیا چاہے

اس مثل کے پیچھے ایک واقعہ ہے، وہ یہ کہ ایک لڑکی کو دلہن بنایا جا رہا تھا، اس کو سنگھار کر کے سجایا جا رہا تھا، اب میک آپ کے بعد جو کوئی اس لڑکی کو دیکھتا اس کی تعریف کرتا کہ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے، تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، تیرا جسم اتنا خوبصورت ہے، تیرے کپڑے اور تیرا زیور بہت خوبصورت ہے۔ سب اس کی تعریف کرتے، لیکن وہ لڑکی سب کی تعریف سن کر کسی خوشی کا اظہار نہ کرتی اور سنی ان سنی کر دیتی۔ کسی نے اس لڑکی سے کہا کہ یہ تیری سہیلیاں تیری اتنی تعریف کر رہی ہیں، اس سے تجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ ان کی تعریف کرنے سے کیا خوش ہوں، اس لئے کہ ان کی تعریف تو ہوا میں اڑ جائے گی، بات تو اس وقت ہے کہ جس کے لئے مجھے سنوارا جا رہا ہے، وہ میری تعریف کرے اور وہ پسند کر لے کہ ہاں یہ خوبصورت ہے، تب تو فائدہ ہے، اور اس کا اثر یہ ہو گا اس سے میری زندگی سنور جائے گی۔ لیکن اگر یہ سہیلیاں تو میری تعریف کر کے چلی گئیں اور جس کے لئے مجھے سنوارا گیا تھا، اس نے مجھے ناپسند کر دیا، تو پھر اس دلہن بننے کا اور

اس سنگھار کا کیا فائدہ؟

اس ذات کی پسندیدگی کو دیکھو

یہ واقعہ سنا کر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دیکھو کہ جس کے لئے وہ کام کر رہے ہو، اس کو پسند ہے یا نہیں؟ اگر لوگوں نے آپ کو کہدیا کہ آپ بڑے مفتی صاحب ہیں، یا آپ بڑے مولانا صاحب ہیں، یا لوگوں نے یہ کہدیا کہ یہ شخص بڑا مبلغ ہے، تبلیغ میں بڑا وقت لگاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، یا کسی کے بارے میں کہدیا کہ یہ شخص بڑا مجاہد اعظم ہے، بتائیے کہ لوگوں کے اس کہنے سے کیا حاصل ہوا؟ کچھ نہیں، بات اس وقت ہے کہ جس کے لئے یہ سب کام کر رہے ہو، وہ یہ کہدے کہ۔

بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے

اس وقت فائدہ ہے، اس لئے کہ ان اعمال سے ان کو ہی راضی کرنا مقصود ہے۔

ذکر کو روک کر اذان کا جواب دو

اور جب ان کو راضی کرنا مقصود ہے تو آدمی کو یہ دیکھنا چاہئے کہ اس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہو رہا ہے۔ لہذا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو ذکر چھوڑ دو اور مؤذن کی آواز سنو اور اس کا جواب دو۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ اس میں تو وقت ضائع ہو رہا ہے، اگر اس وقت میں ذکر کرتا تو کئی تسبیحات پڑھ لیتا، لیکن جب یہ حکم دیدیا کہ اب ذکر سے رک جاؤ، تو اب رک جانا چاہئے،

اس رکنے میں ہی فائدہ ہے۔

سب کچھ ہمارے حکم میں ہے

یہ ”حج“ اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب و غریب عبادت بنائی ہے، اس حج کو ذرا غور سے دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ اس میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے قاعدوں کے بت توڑے ہیں۔ مثلاً مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے، لیکن ۸ رذی الحجہ کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ مسجد حرام کو چھوڑو اور منی جاؤ، وہاں ایک دن قیام کرو، اب منی میں نہ حرم ہے، نہ کعبہ ہے، نہ وقوف ہے، نہ رمی ہے، نہ کوئی اور کوئی کام ہے، بس یہ حکم ہے کہ وہاں پانچ نمازیں ادا کرو، ایک لاکھ نمازوں کا ثواب چھوڑو اور وہاں جنگل میں جا کر نمازیں پڑھو۔ اس حکم کے ذریعہ یہ بتانا مقصود ہے کہ بذات خود نہ کعبہ میں کچھ رکھا ہے، نہ حرم میں کچھ رکھا ہے، نہ مسجد حرام میں کچھ رکھا ہے، جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم میں ہے۔ جب ہم نے کہا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھو تو اس وقت ایک نماز پر ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے اور جب ہم نے کہا کہ مسجد حرام کی نماز کو چھوڑو، تو اب اگر وہاں نماز پڑھو گے تو ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا، اس لئے کہ تم نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی۔

اصل مقصود اطاعت خداوندی ہے

نماز وقت پر پڑھنے کی کتبھی تاکید آئی ہے، چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد

ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔

(سورۃ النساء، آیت ۱۰۳)

بیشک نماز مؤمنین پر اپنے مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔

اس آیت میں نماز کو وقت کے ساتھ پابند کیا گیا ہے کہ نماز کا وقت گزرنے نہ پائے۔ حدیث میں فرمایا کہ مغرب میں تعیل کرو، جتنا جلدی ہو سکے اس کو پڑھ لو، مغرب کی نماز میں تاخیر نہ ہو۔ لیکن عرفات کے میدان میں آفتاب غروب ہو چکا ہے مگر حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ ابھی نماز مت پڑھو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یاد دلا رہے ہیں:

الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

الصَّلَاةُ أَمَامَكَ

نماز آگے ہے، یعنی نماز یہاں نہیں پڑھنی بلکہ آگے میدان مزدلفہ میں جا کر پڑھنی ہے۔ اس کے ذریعے یہ سبق دیدیا کہ تم یہ مت سمجھ لینا کہ اس مغرب کے وقت میں کچھ رکھا ہے، اور یہ مت سمجھ لینا کہ اس وقت کی تاکید میں کچھ رکھا ہے، بلکہ جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم میں ہے، جب ہم نے کہا تھا کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھو تو جلدی پڑھنا ضروری تھا، اور جب ہم نے کہا کہ مغرب کا وقت گزار دو اور اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھو، تو اب تمہارے ذمے اسی طرح پڑھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت میں قدم قدم پر معمول کے

قاعداں کو توڑا ہے، تاکہ ظاہری قیود کو بت نہ بنالیا جائے۔ اس کے ذریعہ اس بات کی تربیت دی جا رہی ہے کہ کسی چیز کو اپنی ذات میں مقصود نہ سمجھو، نہ نماز اپنی ذات میں مقصود ہے، نہ روزہ اپنی ذات میں مقصود ہے، نہ کوئی اور عبادت اپنی ذات میں مقصود ہے، بلکہ اصل مقصود اللہ جل شانہ کی اطاعت ہے۔

افطار میں جلدی کیوں؟

دیکھئے اشریعت کا ایک حکم یہ ہے کہ جب روزہ کے افطار کا وقت آجائے تو افطار میں جلدی کرو اور بلاوجہ افطار میں تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ تاخیر کرنا اس لئے مکروہ ہے کہ اب تک ہم نے کھانے پینے سے منع کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے اب تک بھوکا رہنا باعث ثواب تھا، پیاسا رہنا باعث ثواب تھا، اس کی بڑی فضیلت تھی، اس پر بڑا اجر تھا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ لیکن جب ہم نے کہہ دیا کہ کھاؤ تو اب کھانے میں تاخیر کرنا گناہ ہے، اس لئے اب اگر تاخیر کرو گے تو اپنی طرف سے روزے کے وقت میں اضافہ کرو گے۔

سحری میں تاخیر افضل کیوں؟

اسی طرح سحری کھانے میں تاخیر کرنا افضل ہے۔ اگر کوئی وقت سے پہلے سحری کھا کر سو جائے تو یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ اس وقت سحری کھانی چاہئے جب آخری وقت ہو، اس لئے کہ اگر سحری پہلے سے کھا کر سو گیا تو گویا کہ

اس نے روزے کے وقت میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ بہر حال! ہمارے دلوں میں یہ بات آجائے کہ سارا دین ”اتباع“ میں ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ارے تم تو ان کے ”بندے“ ہو اور ”بندے“ کے معنی یہ ہیں کہ جو وہ کہیں وہ کرے۔

”نوکر“ اور ”غلام“ کی تعریف

حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہوتا ہے ”نوکر“، جو خاص وقت اور خاص ڈیوٹی کا ہوتا ہے۔ مثلاً نوکر کے ذمے جھاڑو دینا ہے یا مثلاً یہ نوکر آٹھ گھنٹے کا ملازم ہے، آٹھ گھنٹے کے بعد اس کی چھٹی۔ دوسرا ہوتا ہے ”غلام“ جس کے لئے نہ کوئی خاص وقت ہے اور نہ خاص کام ہے، وہ تو حکم کا پابند ہے، آقا جو حکم دیدے وہ اس کے کرنے کا پابند ہے، مثلاً اگر آقا غلام سے کہہ دے کہ تم یہاں قاضی بن کر بیٹھ جاؤ اور فیصلے کرو تو وہ قاضی بن جائے گا، اور اگر اس غلام سے کہہ دے کہ پاخانہ اٹھاؤ تو وہ پاخانہ اٹھائے گا، اس کے لئے نہ کسی وقت کی قید ہے اور نہ کام کی قید ہے وہ تو چوبیس گھنٹے کا غلام ہے، یہ ہے غلام۔

”بندہ“ کی تعریف

لیکن ”غلام“ سے آگے بھی ایک درجہ اور ہے، وہ ہے ”بندہ“۔ ”غلام“ اپنے آقا کی پرستش نہیں کرتا، لیکن ”بندہ“ اپنے آقا کی عبادت کرتا ہے اور اس کی پرستش بھی کرتا ہے اور یہ بندہ اپنی مرضی کا نہیں ہوتا، بلکہ بندہ تو اپنے آقا کی

مرضی کا ہوتا ہے، آقا جو حکم دیدے وہ اس کو کرنا پڑتا ہے، اپنی طرف سے کوئی کام تجویز نہیں کرتا۔ تمام ”بدعات“ کی جڑ بھی اسی سے نکلتی ہے، اس لئے کہ اپنی تجویز کو دخل دینے سے بدعات پیدا ہوتی ہیں، اپنی تجویز کو ختم کر دو اور ان کی مرضی اور حکم پر چلو تو اسی کا نام ”دین“ ہے۔

خلاصہ

بہر حال! خلاصہ یہ ہے کہ ہر وقت کے تقاضے کو دیکھو کہ اس وقت کا تقاضہ کیا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ کرو۔ اسی لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملفوظ میں فرمایا کہ اذان کا جواب دینا نخل ذکر نہیں، بلکہ اس وقت کا تقاضہ یہی ہے کہ ذکر کو روک دو اور اذان کا جواب دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



درس و تدریس
کے ساتھ اصلاحِ اعمال

جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی



منشیہ و ترتیب
مؤرخہ مولانا عثمانی

میمن اسلامک پبلشرز

۱/۱۸۸ یاقوت آباد کراچی ۱۱

مقام خطاب : جامع مسجد دارالعلوم کراچی
 وقت خطاب : بعد نماز ظہر۔ رمضان المبارک
 اصلاحی مجالس : جلد نمبر ۳
 مجلس نمبر : ۳۶
 صفحات : ۱۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

مجلس نمبر ۲۶

درس و تدریس کے ساتھ اصلاح اعمال

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،
والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى
آله واصحابه اجمعين، اما بعد!

کثرت ذکر اور اصلاح اعمال رکن طریق ہیں

حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ:

اس طریق میں دو چیزیں ہیں ایک کثرت ذکر، دوسرے
اصلاح اعمال، سو کثرت ذکر تو حالت طالب علمی میں
مناسب نہیں اور جو مقصود ہے کثرت ذکر سے، وہ ان کو

مشغولی علم سے حاصل ہو جاتا ہے بشرط تقویٰ، باقی رہا
اصلاح اعمال، وہ ہر حال میں فرض ہے، اور غالب علمی
کی حالت بھی اس سے مستثنیٰ نہیں، سو اس کا سلسلہ شروع کر
دینا چاہئے، اس کی ترتیب یہ ہے کہ اول ”قصد السبیل“
کو دوبار بغور مطالعہ کر کے اس سے جو حاصل طریق کا
ذہن میں آئے، اس سے اطلاع دے، پھر طریقہ اصلاح
کا پوچھے۔

(انفاس عیسیٰ، ص ۶۹)

کسی شیخ کی طرف رجوع کرنے کا مقصد

جب کسی اللہ والے کی طرف اور کسی شیخ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو
رجوع کرنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں حاصل ہوں، ایک ”کثرت
ذکر“ حاصل ہو جائے، جس سے ہر وقت ذہن اور دھیان اللہ جل شانہ کی
طرف ہو جائے اور زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تر رہے، ایک تو کثرت
ذکر کی یہ نعمت حاصل ہو جائے۔ دوسری چیز ”اصلاح اعمال“ ہے، یعنی اعمال
درست ہو جائیں، گناہوں سے حفاظت ہو جائے، معصیتوں اور منکرات
سے حفاظت ہو جائے، فرائض و واجبات، سنن اور مستحبات پر عمل ہونے لگے،
اعمال کی طرف رغبت ہو جائے، ان کو کرنے کی توفیق ہو جائے، بہر حال کسی
شیخ کی طرف رجوع کرنے سے یہ دو چیزیں حاصل کرنی اصل مقصد ہوتی ہیں۔

زمانہ طالب علمی میں کثرتِ ذکر مناسب نہیں

لیکن ایک شخص جو علم دین کے کاموں میں مصروف ہے اور وہ اپنی اصلاح کے لئے کسی شیخ کی طرف رجوع کر رہا ہے تو کیا وہ طالب علم بھی شیخ کی طرف رجوع کرنے کے بعد انہی دونوں چیزوں کے حصول کی فکر میں مشغول ہو جائے؟ اس کے لئے حضرت والانے فرمایا کہ ”کثرتِ ذکر“ تو حالت طالب علمی میں مناسب نہیں“ یعنی کوئی طالب علم حالت طالب علمی میں درس و مطالعہ اور تکرار کے بجائے وظیفے پڑھ رہا ہے تو اس کے لئے یہ مناسب نہیں، اس کو تو یہ چاہئے کہ اپنے سہتوں کی طرف اور اپنے مطالعہ اور تکرار کی طرف متوجہ رہے تاکہ اس میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔

مشغولی علم سے کثرتِ ذکر کا مقصود حاصل ہے

البتہ اس پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ شخص کثرتِ ذکر نہیں کرے گا تو کثرتِ ذکر کا جو مقصود ہے، وہ اس سے محروم ہو جائے گا؟ اس کے جواب میں حضرت والانے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ذکر کے فوائد سے محروم ہو جائے گا، بلکہ کثرتِ ذکر سے جو مقصود ہے، وہ اس شخص کو مشغولی علم ہی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ البتہ اس کے حصول کے لئے دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ ”تقویٰ“ ہو، یعنی اس کے اندر گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت کا اہتمام ہو۔ دوسرے یہ کہ ”اخلاص“ ہو، کہ میں جو یہ علم حاصل کر رہا ہوں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے حاصل کر رہا ہوں، میں اگر پڑھا

رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھا رہا ہوں تو اس صورت میں یہ درس و تدریس اور یہ پڑھنا پڑھانا کثرت ذکر کے قائم مقام ہو جائے گا اور اس کے ذریعہ کثرت ذکر کا مقصود حاصل ہو جائے گا۔

طالب علم کو کچھ ذکر ضرور کرنا چاہئے

لیکن طالب علم کو یہ نہ سمجھ لینا چاہئے کہ اب ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ یہ بات ”کثرت ذکر“ کی ہو رہی ہے، مطلق ذکر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی یہ درس و تدریس اور یہ مطالعہ انشاء اللہ کثرت ذکر کے قائم مقام ہو جائے گا، لیکن کچھ ذکر پھر بھی کرنا ہوگا۔ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ۔ ہر جگہ کا اور ہر موقع کا ایک تقاضہ ہے، لہذا یہ سمجھنا کہ چونکہ ہم درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں، اس لئے ہمیں ذکر و نوافل کی ضرورت نہیں، یہ سمجھنا درست نہیں۔ حدیث شریف میں ہے:

تدارس العلم ساعة من الليل خير من احياءها۔

(سنن الدارمی، المقدمة، باب العمل بالعلم وحسن التذوق۔ حدیث نمبر ۲۶۸۰)

یعنی علم کی مشغولی اور اس کا تکرار رات کے کسی ایک حصے میں کر لینا ساری رات جاگنے سے بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص ساری رات تہجد پڑھ رہا ہے، اس کے مقابلے میں یہ بہتر ہے کہ وہ رات کے ایک حصے میں یہ علمی کام کر لے، بشرطیکہ اس کے اندر اخلاص ہو۔ لہذا اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ساری عمر تہجد کی نماز نہ پڑھے، بس بیٹھا تکرار ہی کرتا رہے، اگر یہ مطلب ہوتا تو پھر

صحابہ کرامؓ، تابعینؓ اور بزرگان دین میں سے کوئی بھی نطفی عبادت کا اہتمام نہ کرتے، حالانکہ یہ حضرات نطفی عبادت کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔

”علم“ کو مقصود زندگی بنانے والوں کی حالت

در حقیقت یہ بتانا مقصود ہے کہ دو طبقے تھے، ایک طبقہ وہ تھا جس نے اپنا مقصود زندگی علم کو بنایا تھا، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جس نے اپنا مقصود زندگی نطفی عبادت کو بنایا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ جس نے اپنا مقصود زندگی علم کو بنایا تھا، وہ نطفی عبادت سے بالکل کورا اور بے نیاز تھا، بلکہ تھوڑی بہت نطفی عبادت اپنے حالات کے مطابق وہ بھی کرتا تھا ذکر وہ بھی کرتا تھا، نوافل وہ بھی پڑھتا تھا، تہجد وہ بھی پڑھتا تھا، لیکن صبح سے شام تک صرف اسی ایک کام میں نہیں لگا رہتا تھا۔

کس عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے؟

لیکن آج کل کے علماء کو یہ حدیث بہت یاد رہتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم۔
(ترمذی، کتاب العلم، باب اجابہ فی فضل الفقہ علی العبادۃ)

یعنی عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے مجھے تم میں سے ادنیٰ شخص پر فضیلت ہے۔

اور دوسری حدیث میں ہے کہ:

فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔
(ترمذی، کتاب العلم، باب ما جاء فی فضل الفقه علی العبادۃ)

یعنی ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ سخت اور
بھاری ہے۔

اس قسم کی احادیث ہم جیسے لوگوں کو بہت یاد رہتی ہیں، لیکن خوب سمجھ
لیجئے کہ ان احادیث میں عالم سے مراد وہ عالم ہے جو مشغولیت علم کے ساتھ
ساتھ نقلی عبادت بھی کچھ نہ کچھ انجام دیتا ہو۔ اور عابد سے مراد وہ عابد
ہے جس نے عبادت میں مشغولیت کے ساتھ علم سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھا ہوا
ہے۔

حدیث میں عالم اور عابد سے کون مراد ہیں؟

اس بات کو علامہ ابن خلدونؒ نے اپنے مقدمہ میں اس حدیث کی
تشریح کرتے ہوئے لکھی ہے، حالانکہ ابن خلدونؒ عابد کی حیثیت سے مشہور
نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ایک عام مورخ کی حیثیت سے مشہور ہیں، چنانچہ وہ لکھتے ہیں
کہ: اس حدیث میں ”عالم“ سے مراد وہ عالم ہے جس نے اپنا دن رات کا مشغلہ
علم کو بنا رکھا ہے، لیکن وہ عبادت سے بے بہرہ نہیں۔ اور ”عابد“ سے مراد وہ
عابد ہے جس نے اپنا دن رات کا مشغلہ عبادت کو بنا رکھا ہے، اور علم سے وہ
بالکل بے بہرہ نہیں۔ کیونکہ اگر کوئی عابد ایسا ہے جس کا علم میں کوئی حصہ نہیں تو
اس کی عبادت بیکار ہے، اسی طرح اگر کوئی عالم ایسا ہے جس کا عبادت میں کوئی

حصہ نہیں تو اس کا علم بے کار ہے۔

”علم، عمل اور طاعت کے بغیر بیکار ہے“

اسی طرح ابن خلدون یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم ایسا ہے جو خالص علم میں مشغول ہے، عبادت کی طرف اس کا بالکل دھیان نہیں اور اصلاح اعمال و اخلاق کی طرف دھیان نہیں، دوسری طرف وہ عابد ہے جو صرف عبادت میں مشغول ہے اور علم کی طرف بالکل دھیان نہیں، اگر ان دونوں کا تقابل کیا جائے تو ان میں عابد عالم سے افضل ہے۔ لہذا حدیث میں جس عابد اور عالم کا ذکر ہے اس سے مراد وہ عالم اور عابد ہیں جو دونوں کے جامع ہوں، ورنہ نرا علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، وہ بھی بہت بڑا عالم تھا، اس لئے اگر کوئی شخص نرا علم لے کر بیٹھ گیا، اب اس کا نہ عبادت میں کوئی حصہ ہے، نہ ہی گناہوں سے بچنے کی اس کو کوئی فکر ہے، نہ معصیتوں سے اجتناب کا کوئی اہتمام ہے، بلکہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو ایسا علم کس کام کا جو اس کو گناہوں سے نہ بچائے۔ ایسے شخص کے لئے قرآن کریم کی آیت ہے:

وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا

فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِينَ ۝

(سورۃ الاعراف، آیت ۱۷۵)

یعنی ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، پھر وہ ان آیتوں کو چھوڑ نکلا، پھر

شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں ہو گیا۔

لہذا ایسا عالم جس کا ذکر اس آیت میں ہے، عابد سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ بلکہ ایسے عالم سے تو عابد ہی افضل ہے۔ بہر حال! حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فرمایا کہ کثرت ذکر سے جو مقصود ہے وہ ان کو مشغولی علم سے حاصل ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص علم پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہے، وہ تھوڑا بہت تو ذکر کرے، لیکن وہ کثرت ذکر جو عابد کیا کرتا ہے، اس کا یہ مطالعہ، فکر، یہ درس و تدوین، یہ تصنیف و تالیف، یہ فتویٰ نویسی کثرت ذکر کے قائم مقام ہو جائے گا۔

آپ کو ”قلت“ سے مقصود حاصل ہے

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خط میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ ”حضرت! دن رات کاغذ کالے کرنے میں وقت گزر جاتا ہے، آپ کی خانقاہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آکر کس طرح سے ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں اور مجاہدات اور ریاضتیں کرتے ہیں، مجھ سے یہ سب نہیں بن پڑا، میں ان چیزوں سے محروم ہوں، تھوڑے سے معمولات ہیں، بس وہ ادا کر لیتا ہوں۔“

جواب میں حضرت والد نے لکھا کہ: ”جو مقصود ان کو کثرت سے حاصل ہے، الحمد للہ، وہ آپ کو قلت سے حاصل ہے۔“ وجہ اس کی یہ ہے کہ بزرگوں

نے فرمایا کہ:

كُلِّ مطيع لله فهو ذاكر-

جو شخص اللہ کی اطاعت کا کوئی بھی کام کر رہا ہے، وہ درحقیقت اللہ کا ہی ذکر کر رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اخلاص اور تقویٰ عطا فرمائے تو یہ سب کام بھی ذکر میں داخل ہیں۔

”قطبی“ پڑھ کر ایصالِ ثواب

میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شیخ البند رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ سنا کہ آپ کے پاس ایک شیخ اپنے کسی عزیز کے لئے ایصالِ ثواب کرانے کے لئے آیا، حضرت شیخ الہند اس وقت ”قطبی“ کا سبق پڑھا رہے تھے، فرمایا کہ ہم یہ قطبی کا سبق پڑھ کر تمہارے عزیز کے لئے ایصالِ ثواب کر دیں گے۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ حضرت! قطبی پڑھ کر ایصالِ ثواب؟؟ ایصالِ ثواب تو قرآن کریم یا بخاری شریف وغیرہ پڑھ کر ہوتا ہے۔ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ ہمارے نزدیک قطبی میں اور بخاری میں کوئی فرق نہیں، اس لئے کہ بخاری شریف پڑھنے سے جو مقصود ہے، قطبی پڑھنے سے بھی وہی مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو ثواب بخاری شریف پڑھنے سے ملتا ہے وہی ثواب قطبی پڑھنے پر بھی عطا فرمائیں گے، اگر نیت درست ہو۔

زمانہ طالب علمی میں اصلاح اعمال

آگے حضرت والا نے فرمایا کہ:

باقی رہا اصلاح اعمال، وہ ہر حال میں فرض ہے، طالب علمی کی حالت بھی اس سے مستثنیٰ نہیں، سو اس کا سلسلہ شروع کر دینا چاہئے۔

یعنی طالب علم ہو، یا غیر طالب علم ہو، اپنے اعمال کی اصلاح تو ہر ایک کو کرنی ہے۔ چنانچہ آپ نے سنا ہو گا کہ جب کوئی طالب علم کسی بزرگ کے پاس بیعت ہونے کے لئے جاتا ہے تو وہ بزرگ ان کو بیعت نہیں کرتے، بلکہ اس سے یہ فرماتے ہیں کہ جب تم فارغ ہو جاؤ گے اس وقت دیکھیں گے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی سنا ہو گا کہ بعض طالب علموں کا بزرگوں سے تعلق ہوتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایسی ”بیعت“ جس کے لوازم میں وظائف و اوراد کی کثرت ہوتی ہے، وہ طالب علم کو نہیں کرتے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اس کے درس، مطالعہ اور نکرار میں حرج ہو گا، اور اس کا ذہن ان اوراد و وظائف کی طرف متوجہ ہو جائے گا، لیکن جہاں تک اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کرانے کا تعلق ہے اس تعلق میں طالب علم اور غیر طالب علم سب برابر ہیں۔

ابتداءً ”قصد السبیل“ کا مطالعہ

آگے حضرت والا نے فرمایا کہ:

اس کی ترتیب یہ ہے کہ اول ”قصد السبیل“ کا دوبار
بغور مطالعہ کر کے اس سے جو حاصل طریق کا ذہن میں
آئے، اس سے اطلاع دے، پھر طریقہ اصلاح کا پوچھے۔

یعنی حضرت والا کا ایک رسالہ ہے ”قصد السبیل“ اس رسالے میں حضرت نے
خلاصہ بیان فرما دیا ہے کہ کسی شیخ اور بزرگ سے تعلق قائم کرنے کا اور اس
تصوف کا مقصد کیا ہے؟ چونکہ اس رسالے میں کچھ فارسی اور عربی کے الفاظ
بھی تھے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کو اس کے پڑھنے میں دشواری ہوتی تھی،
اس لئے میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ نے اس رسالے کی تسہیل کر دی ہے،
اور اس کا نام ”تسہیل قصد السبیل“ رکھ دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس
رسالے کو دو مرتبہ پڑھ لو، تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے، اس کے پڑھنے سے
یہ سمجھ میں آجائے گا کہ اس طریق اور تصوف کا حاصل کیا ہے؟ جب طریق اور
تصوف سمجھ میں آجائے تو اب اپنے مصلح کو اور شیخ کو اطلاع کرتے رہو کہ میں یہ
عمل کر رہا ہوں اور یہ میرے حالات ہیں، اور شیخ سے مشورہ لیتے رہو اور
ہدایات طلب کرتے رہو۔

”مکاتبت“ کے ذریعہ اصلاح کا آغاز

ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ”تجدید“ کا مقام
عطا فرمایا تھا، انہوں نے اس تصوف اور طریقت کے راستے میں ”مراسلت“ اور
”مکاتبت“ کا عجیب و غریب سلسلہ جاری فرمایا۔ پہلے مکاتبت اور مراسلت کا

ایسا اہتمام و انتظام نہیں تھا، بس یہ تھا کہ شیخ کی خدمت میں جاؤ اور ان کی صحبت میں بیٹھو، اور ان کے پاس رہ کر اپنی اصلاح کراؤ، چلنے لگاؤ، مراقبات کرو، تب جا کر اصلاح ہوتی تھی۔ جب حضرت والانے یہ دیکھا کہ لوگوں کے پاس اب وقت کہاں؟ فرصت کہاں؟ کہاں جا کر اپنی اصلاح کرائیں گے، اس طرح یہ لوگ اپنی اصلاح سے محروم رہ جائیں گے، اس لئے آپ نے فرمایا کہ شیخ سے ”مراسلت اور مکاتبت“ قائم کرو، یہ مراسلت ”صحبت“ کے قائم مقام ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے شیخ کے پاس اس کی صحبت میں وقت گزار رہا ہو، تب بھی بعض اوقات کوئی بات زبان سے کہنے میں دشواری معلوم ہوتی ہے، اس لئے شیخ سے جو بات کہنی ہو، وہ اس کو لکھ کر دیدو، پھر شیخ اس کو لکھ کر ہدایت اور رہنمائی کر دیتا ہے، پھر اس کی ہدایت پر عمل کرو، اس میں بڑی برکت ہے۔

”تربیت السالک“ مکاتبت کا نمونہ ہے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”تربیت السالک“ تصوف کے باب میں عجیب و غریب فرامی چیز ہے، بڑے بڑے لوگ جو اپنے اپنے حالات لکھ بھیجتے تھے، حضرت والا اس کا حل لکھ کر بھیجتے، یہ کتاب اس منتخب مکاتبت اور مراسلت کا مجموعہ ہے۔ ہم جیسے لوگ اس کی کیا قدر پہنچائیں، جس پر حالات گزر رہے ہوں، جس کو سابقہ پیش آیا ہو، وہ اس کی قدر جان سکتا ہے کہ اس کے اندر کیسے ”جوہر“ موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت والانے دودھ کا دودھ

اور پانی کا پانی نکھار کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو دین کی، تصوف کی، شریعت کی اور طریقت کی عجیب فہم عطا فرمائی تھی۔ بہر حال! یہ ”مراسلت“ اور ”مکاتبت“ بڑی کار آمد چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ



صحت کی دعا کرنا سنت ہے

جس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی



مطبوعہ و ترقیب
مؤرخہ عبدالرحمن

میں اسلامک پبلشرز

۱/۱۸۸، بلاقت آباد، کراچی ۱۱

مقام خطاب : جامع مسجد دارالعلوم کراچی
وقت خطاب : بعد نماز ظہر۔ رمضان المبارک
اصلاحی مجالس : جلد نمبر ۳
جلسہ نمبر : ۴۷
صفحات : ۲۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

مجلس نمبر ۴

صحت کی دعا کرنا سنت ہے

الحمد لله رب العالمين - والعاقبة للمتقين -
والصلوة والسلام على رسوله الكريم - وعلى
آله واصحابه اجمعين - أما بعد!

ایک بیمار کا خط

ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ:
”اب پروردگار عالم ساتھ ایمان کے بلا لیں، بلا بصارت
زندگی بیکار ہے، تلاوت و مواعظ وغیرہ سے محرومی کا
سخت رنج ہے“

(انفاس عیسیٰ ص ۷۸)

ان صاحب کی آخر عمر میں بینائی جاتی رہی تھی اور بینائی کا چلے جانا بلا شبہ سخت مصیبت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے۔ خاص طور پر وہ شخص جو اچھا بھلا دیکھنے والا اور مطالعہ کرنے والا ہو، اگر اس کی بینائی جاتی رہے تو بڑی سخت تکلیف کی بات ہے۔ اس تکلیف پر انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ بس اب تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلا لیں، کیونکہ جب آنکھ ہی نہ رہی تو اب زندگی سے کچھ فائدہ نہیں، اب تو قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، مواعظ بھی نہیں پڑھ سکتے، ان سب سے محرومی ہو گئی ہے۔

صحت کی دعا عبودیت کی علامت ہے

حضرت والا نے جواب میں لکھا کہ:

”صحت کی دعا تو سنت ہے اور علامت ”عبودیت“ کی ہے، مگر یہ کہنا کہ اب پروردگار عالم ساتھ ایمان کے بلا لیں، بلا بصارت زندگی بیکار ہے“ یہ نہایت بے ادبی ہے اور بعید از ”عبودیت“ ہے، ہم کو راکمیں لگانے کا کیا حق ہے، حضرت حق سے جو پیش آئے خیر ہے، تلاوت و کتب بینی میں ثواب اور رضا منحصر نہیں، اول تو صحت کی حالت میں تظوع پر مداومت کرنے والے کو مرض میں بدون عمل کئے بھی ثواب عمل سابق کا ملتا رہتا ہے۔ دوسرے

بعض اوقات صبر کا اجر عمل کے اجر سے بڑھ جاتا ہے، البتہ
 بینائی کی دعا خود رائی نہیں، اس کی اجازت ہے، دعا مانگنے
 اور دل سے مانگنے اور ساتھ میں یہ سمجھے کہ اگر اس کے
 خلاف واقع ہوا وہ بھی خیر ہے، اس پر بھی راضی رہے۔

(ایضاً)

بیماری میں دعا کرنے کا ثبوت

دو باتیں الگ الگ ہیں، دونوں کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے، پہلی
 بات تو یہ کہ جب آدمی بیمار ہو یا تکلیف میں ہو تو اس بیماری کی حالت میں صحت
 مانگنا کہ یا اللہ! مجھے صحت عطا فرمادے، یہ دعا کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ
 سکت ہے، اس لئے یہ دعا مانگنی چاہئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ

وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَا بِالْقَدْرِ۔

(کنز العمال، ج ۲، ص ۱۸۳، حدیث نمبر ۳۶۵۰)

اے اللہ! میں آپ سے صحت، عفت، امانت، حسن اخلاق

اور رضا بقدر کا سوال کرتا ہوں۔

اور ایک مرتبہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے عالم

میں تھے تو آپ ﷺ نے ان الفاظ سے دعا فرمائی:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَعْجِيلَ عَافِيَتِكَ وَصَبْرًا عَلَيَّ

بَلِيَّتِكَ وَخُرُوجًا مِنَ الدُّنْيَا الَّتِي رَحِمْتِكَ

(کنز العمال، ج ۴، ص ۱۹۰، حدیث نمبر ۳۶۹۸)

اس دعا میں صرف یہ نہیں کیا کہ عافیت مانگ رہے ہیں، بلکہ جلدی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ! جلدی سے عافیت دیدیجئے اور مصیبتوں پر صبر عطا فرمائیے۔ لہذا تعجیل عافیت کی دعا مانگنا بھی سنت ہے اور اس میں ثواب بھی ہے۔ اور عبدیت اور بندگی کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے تکلیف کے ازالے کی دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری کا مظاہرہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عبدیت، شکستگی، عاجزی کا مظاہرہ کرنا مطلوب ہے، یہ نہ ہو کہ سینہ تان کر کہیں کہ اور بیماری لاؤ، ہم تو برداشت کریں گے، یہ عبدیت کا تقاضہ نہیں۔ عبدیت کا تقاضہ یہ ہے کہ جب بیماری آئے تو اللہ تعالیٰ سے صحت مانگے کہ یا اللہ! مجھے صحت عطا فرمادے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا:

إِنِّي مَسْنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ -

(سورہ ص، آیت ۳۱)

دوسری جگہ فرمایا:

إِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرُ -

(سورہ القمر، آیت ۱۰)

مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، اور آپ سب مہربانوں سے

زیادہ مہربان ہیں۔

بہر حال، صحت مانگنا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔

ایک بزرگ کا واقعہ

میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا کہ ایک بزرگ بیمار ہو گئے، دوسرے بزرگ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے، انہوں نے جا کر دیکھا کہ وہ بیمار بزرگ تکلیف میں ہیں، لیکن اس تکلیف کے عالم میں ”الحمد للہ، الحمد للہ“ کا ورد کر رہے ہیں، نہ تو آہ آہ کر رہے ہیں اور نہ ہی صحت کی دعا کر رہے ہیں۔ جو بزرگ عیادت کرنے کے لئے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی! اگر تم نے اس طرح ”الحمد للہ“ کا ورد جاری رکھا تو صحت حاصل نہیں ہوگی، اگر صحت چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ یہ تکلیف دور ہو جائے تو تھوڑا ہائے کرو، اور اللہ تعالیٰ سے صحت مانگو اور کہو کہ یا اللہ! میں عاجز اور کمزور ہوں، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، آپ مجھ سے اس تکلیف کو دور فرما دیجئے اور صحت عطا فرما دیجئے۔ بہر حال، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور شکستگی کا اظہار کرنا مطلوب ہے، نہ یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری کا اظہار کرے۔

اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں

ہمارے بڑے بھائی تھے، محمد ذکی کیفی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے

درجات بلند فرمائے، آمین، شعر بہت اچھے کہتے تھے، ایک شعر میں انہوں نے یہی بات بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ:

اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں
توڑنا ہے حسن کا پندار کیا؟

ضبط غم ویسے تو اچھی چیز ہے، لیکن اس قدر بھی ضبط غم نہ ہو کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادر بن جائے، کیا اللہ تعالیٰ کا پندار توڑنا چاہتے ہو کہ آپ مجھے کتنی بھی تکلیف دیں، لیکن میں بڑا بہادر ہوں، میں سب برداشت کروں گا۔ یاد رکھو یہ بندگی کا تقاضہ نہیں ہے، بندگی کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ! مجھے صحت عطا فرمادیتے۔

بھوک کی وجہ سے ایک بزرگ کا رونا

حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ بیٹھے رو رہے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت! کیوں رو رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس لئے رو رہا ہوں کہ بھوک لگ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ! بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلا دیجئے۔ کسی نے کہا کہ آپ تو بچوں کی طرح رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ میاں نے مجھے اسی لئے بھوک دی ہے تاکہ میں رو رو کر اس سے مانگوں اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کروں۔

بیماری میں ہائے کرنا

بہر حال، بیماری کی حالت میں صحت کی دعا کرنا تو سنت ہے، بشرطیکہ وہ ایسے طریقے سے نہ ہو کہ اس میں شکوہ پنہاں ہو، معاذ اللہ۔ بیماری کی حالت میں ہائے کرنے میں کوئی حرج نہیں، تکلیف کے اظہار میں کوئی حرج نہیں، لیکن تکلیف کا اظہار ایسے الفاظ سے نہ ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ ہو، کیونکہ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ یا اللہ! فیصلہ آپ ہی کا برحق ہے، مشیت آپ ہی کی درست ہے، لیکن میں کمزور ہوں، عاجز ہوں، اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پارہا ہوں، اے اللہ! اس تکلیف کو دور فرما دیجئے۔

حضرت مفتی صاحبؒ کا تکالیف پر صبر

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کو دیکھا کہ آپ کو شدید دل کی تکلیف تھی، اس کے ساتھ ساتھ پاؤں میں نقرس کا درد، اور پھر اس کے علاوہ جسم پر پھنسیاں بھی نکل آئیں، جس کو ڈاکٹر ہر بیڑی پھنسیاں کہتے ہیں، جو ڈاکٹر اور اطباء آکر ان پھنسیوں کو دیکھ رہے تھے، وہ بتاتے تھے کہ یہ پھنسیاں ایسی ہیں کہ جب جسم پر نکل آتی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسم پر کسی نے انگارہ رکھ دیا ہو، اور پوری ٹانگ ان پھنسیوں سے بھری ہوئی تھی اور سینے پر بھی نکلی ہوئی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس دوران حضرت والد

صاحب کو دیکھنے کے لئے چھ سات بڑے بڑے اہل تہذیب اور ڈاکٹر آئے جن میں حکیم سعید صاحب بھی تھے، جب یہ حضرات دیکھ کر باہر تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پر حیرت ہے کہ مفتی صاحب کیسے اس کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں اس لئے کہ یہ پھنسیاں تو بالکل انگاروں کی طرح تکلیف دہ ہوتی ہیں۔

رحم کی دعا پر استغفار

ابھی اپنی ان تکالیف کے اندر مبتلا تھے کہ اسی حالت میں ہمارے بڑے بھائی صاحب ”بھائی ذکی کیفی مرحوم“ کے انتقال کی خبر آئی، جو جوان اور محبوب بیٹے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف دل کی تکلیف، دوسری طرف نقرس کا درد، تیسرے ہرپیز کی پھنسیاں، اور چوتھے جوان بیٹے کے انتقال کی خبر۔ اس وقت بے ساختہ زبان پر یہ الفاظ آئے یا اللہ! فضل فرما، یا اللہ! رحم فرما۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فرمایا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا کہ یا اللہ! رحم فرما، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم نہیں ہو رہا ہے، یہ تو ہر معاذ اللہ شکوہ کی بات ہو گئی، اس میں شکوہ کا شائبہ پیدا ہو گیا، حالانکہ ہم تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش میں زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ! میں ان الفاظ پر آپ سے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، پھر یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ! یہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، لیکن یا اللہ! ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، اس نعمت کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، اے اللہ! اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما۔

دعا میں شکوہ کارنگ نہ ہو

آپ اندازہ لگائیں کہ جس شخص پر یہ تکالیف اور پریشانی گزر رہی ہو، اس وقت ذہن کا اس بات کی طرف جانا کہ میرا یہ جملہ ”یا اللہ! رحم فرما“ کہیں غلط نہ ہو گیا ہو، یہ اسی شخص کا ذہن اس طرف جاسکتا ہے جس کا رابطہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو، ہر کس و ناکس کا ذہن اس طرف نہیں جاسکتا۔ اس کے ذریعہ ادب سکھا دیا کہ صحت کی دعا مانگو، لیکن اس طرح نہ مانگو کہ اس میں شکوہ کا رنگ پیدا ہو جائے، بلکہ اپنی کمزوری اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے صحت کی دعا کرو، اپنی شکستگی کا اظہار کرتے ہوئے مانگو، پھر انشاء اللہ اس دعا پر اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائیں۔ اسی لئے اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: صحت کی دعا تو سست ہے اور علامت ”عبدیت“ کی ہے۔

حضور ﷺ کی شان میں توصیف کے کلمات

یاد رکھئے! انسان کا اعلیٰ ترین مقام جس سے اعلیٰ مقام کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ ”عبدیت“ کا مقام ہے، یعنی انسان اللہ کا بندہ بن جائے۔ دیکھئے! اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنے عنوانات سے فرمایا کہ تعریف اور توصیف کا کوئی کلمہ نہیں چھوڑا۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا

وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذَنِهِ وَسِرَاجًا

مُنِيرًا

(سورۃ الاحزاب، آیت ۳۵)

اے نبی ہم نے آپ (ﷺ) کو اس شان کارسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے اور آپ بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلائے والے ہیں اور آپ ایک روشن چراغ ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ
مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

(سورۃ التوبہ، آیت ۱۲۸)

یعنی تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مصرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، مؤمنین کے ساتھ بڑے ہی شفیق مہربان ہیں۔

مختلف عنوانات سے اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف فرمائی ہے، کہیں ”يَا أَيُّهَا الْمُدْمِلُ“ فرما رہے ہیں، اور کہیں ”يَا أَيُّهَا الْمُدْمِتُّ“

فرما رہے ہیں، کہیں ”کملی والے“ کہہ کر خطاب کر رہے ہیں، کہیں ”چادر والے“ کہہ کر خطاب کر رہے ہیں، محبت اور پیار کا اور تعظیم و تکریم کا کوئی عنوان نہیں چھوڑا۔

معراج کے تذکرے میں ”عبید“ کا لفظ لانا

لیکن جب اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر آپ کو قرب کا سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، جہاں پر آپ ﷺ کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور اس مقام پر پہنچایا کہ جبرئیل امین بھی وہاں نہ جاسکے، تو قرآن کریم میں جہاں اس بلند مقام کے عطا کرنے کا ذکر فرمایا، وہاں آپ ﷺ کے لئے صرف ایک لفظ ”عبید“ کا ذکر فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -

(سورۃ بنی اسرائیل، آیت ۱)

یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت

مسجد حرام سے لے گئی۔

اب یہاں پر نہ ”شایعاً“ کا لفظ ارشاد فرمایا، نہ ”مبشراً“ نہ ”نذیراً“ لائے، یہاں صرف ”بعبدہ“ کا لفظ لائے کہ اپنے بندے کو لے گئے، اس سے اشارہ اس طرف فرما دیا کہ ”بندگی“ سے زیادہ اونچا کوئی دوسرا مقام نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی انسان کتنا ہی آگے بڑھ جائے، لیکن اس کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ

تعالیٰ کا بندہ بن جائے۔ لہذا انسان کا اعلیٰ ترین مقام ”عبدیت“ ہے، اور یہ ”عبدیت“ اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، گرو گزائے، شگستگی اور عاجزی کا اظہار کرے۔

یہ بے ادبی کے الفاظ ہیں

بہر حال! حضرت والا نے فرمایا کہ ”صحت کی دعا کرنا تو سنت ہے اور علامت عبدیت کی ہے۔ مگر یہ کہنا کہ اب پروردگار عالم ساتھ ایمان کے بلائے، بلا بصارت زندگی بیکار ہے، یہ نہایت بے ادبی ہے۔ یہ الفاظ اکثر و بیشتر لوگوں کی زبان پر آجاتے ہیں کہ اب تو اللہ میاں ایمان کے ساتھ اٹھالے، اب تو زندگی بیکار ہے۔ ان الفاظ کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت بے ادبی کی بات ہے اور عبدیت سے بہت بعید ہے۔ ارے ہم کو رائے قائم کرنے کا کیا حق ہے کہ ہم زندگی کے بارے میں یہ رائے قائم کریں کہ اب تو زندگی بیکار ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول زندہ رکھا ہے، معاذ اللہ۔

یہ تکلیف تمہیں کس بلند مقام پر پہنچا رہی ہے

تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے لئے زندگی بہتر ہے یا موت بہتر ہے، کیا معلوم کہ اس آنے والی زندگی میں کوئی ایک عمل ایسا ہو جائے جس سے بیڑہ پار ہو جائے، کیا معلوم کہ یہ تکلیف جس کی وجہ سے تم کراہ رہے ہو اور یہ تمہا کر رہے ہو کہ مجھے موت آجائے تو بہتر ہے، یہی تکلیف تمہیں معلوم نہیں کس بلند

مرتے پر پہنچا رہی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں، کوئی ان کو سمجھ نہیں سکتا۔

ما پروریم دشمن و ما می کشیم دوست

کسے را چرا و چون نہ رسد در قضا، ما

یعنی ہم دشمنوں کو پالتے ہیں اور دوستوں کو مار دیتے ہیں، کسی کو مارے فیصلے میں چوں و چرا کرنے کی گنجائش نہیں۔ اچھے خاصے دشمن خدا اور دشمن دین کو ذلیل دی جا رہی ہے، وہ چاند پر جھنڈے گاڑ رہے ہیں، اور جو اپنے پیارے اور محبوب ہیں، ان کو آروں سے چروایا جا رہا ہے۔

ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی خاص مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن وہ شخص اپنے اعمال کے ذریعہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، کبھی جسم میں، کبھی جان میں، کبھی خیالات میں، کبھی جذبات میں تکلیف دیدیتے ہیں، پھر اس تکلیف کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔

ایک مسلمان اور ایک یہودی کا قصہ

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شہر میں ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا، دونوں بستر مرگ پر مرنے کے قریب تھے، یہودی کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کہ کہیں سے مچھلی

مل جائے تو کھاؤں اور مسلمان کے دل میں زیتون کا تیل کھانے کا دل چاہا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے سے فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک یہودی ہے، اس کا مچھلی کھانے کو دل چاہ رہا ہے، تم ایسا کرو کہ ایک مچھلی پکڑ کر اس کے گھر کے اندر جو تالاب ہے اس میں ڈال دو، تاکہ وہ مچھلی وہاں سے نکلوا کر کھالے۔ اور ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ فلاں مسلمان کو زیتون کھانے کا دل چاہ رہا ہے اور اس کے گھر کی الماری میں زیتون موجود ہے، تم جا کر وہ زیتون ضائع کر دو۔ چنانچہ وہ دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم بجالانے کے لئے روانہ ہو گئے۔

فرشتوں نے اپنا اپنا کام کر لیا

راستے میں دونوں فرشتوں کی ملاقات ہو گئی، ایک فرشتے سے دوسرے نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک یہودی کا مچھلی کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اس کے تالاب میں مچھلی ڈال دوں، تاکہ وہ اس کو کھالے۔ دوسرے فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ فلاں مسلمان کو زیتون کا تیل کھانے کو دل چاہ رہا ہے، تم جا کر اس کے تیل کو ضائع کر دو، تاکہ وہ اس کو نہ کھا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو بہر حال حکم ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، چنانچہ دونوں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنا اپنا کام کر لیا۔

یا اللہ! بات سمجھ میں نہیں آئی

جب وہ دونوں فرشتے اپنا اپنا کام کر کے واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا اللہ! یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ایک طرف یہودی ہے جو کافر ہے، اس کی خواہش تو آپ اس طرح پوری کر رہے ہیں کہ اس کے تالاب میں مچھلی موجود بھی نہیں تھی، اس کے باوجود اس کی خواہش پوری کرنے کے لئے اس کے تالاب میں مچھلی ڈلوادی۔ دوسری طرف مسلمان ہے جس کے گھر میں زیتون کا تیل موجود تھا، اس کے باوجود آپ نے اس کے تیل کو ضائع کر دیا، تاکہ وہ اپنی خواہش پوری نہ کر سکے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔

کافروں کے ساتھ دوسرا معاملہ ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو غیر مسلم اور کافر ہیں ان کے ساتھ میرا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں، مثلاً کوئی صدقہ خیرات کر دیا، دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آگئے، کوئی خیراتی کام کر دیے وغیرہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں ہی چکا دیا جائے، اور جب یہ میرے پاس آئیں تو ان کی اچھائیوں کا حساب دنیا میں بے باک ہو چکا ہو، اور میرے ذمے آخرت میں ان کی نیکی کا بدلہ کوئی نہ ہو، اس لئے میں ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دیتا رہتا ہوں۔ یہ

یہودی بھی بہت سے اچھے کام کرتا تھا، ان تمام اچھے کاموں کا بدلہ میں دنیا میں دے چکا تھا، صرف ایک اچھے کام کا بدلہ اس کو دنیا میں نہیں ملا تھا، اور اب یہ یہودی ہمارے پاس آنے والا تھا، اس لئے ہم نے چاہا کہ اس کی یہ آخری خواہش اور پوری کر دی جائے تاکہ اس کے نتیجے میں اس کا حساب کتاب برابر ہو جائے، لہذا اس کی اس خواہش کو پورا کر کے ہم نے اس کا حساب کتاب برابر کر دیا، اب یہ ہمارے پاس آئے گا تو ہمارے ذمے اس کی کسی نیکی کا بدلہ دینا باقی نہیں ہوگا۔

مسلمانوں کے ساتھ دوسرا معاملہ ہے

اور مسلمانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں گناہ کرتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے گناہوں کا حساب دنیا ہی میں یہاں ہو جائے، تاکہ جب وہ ہمارے پاس آئے تو گناہ کا کوئی حساب اس کے کھاتے میں نہ ہو اور ہمیں اس کو عذاب دینے کے لئے جہنم میں نہ بھیجنا پڑے۔ لہذا اگر کسی مسلمان کے ذمے کوئی گناہ باقی ہوتا ہے تو ہم تکلیفوں کے ذریعہ اور بیماریوں کے ذریعہ اس کے گناہ ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس مسلمان کے اور سارے گناہ تو معاف ہو گئے تھے، صرف ایک گناہ باقی رہ گیا تھا، ہم نے چاہا کہ اس کا یہ گناہ بھی باقی نہ رہے، تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو پاک صاف ہو کر ہمارے پاس آئے، اس لئے جب اس کے دل میں زیتون کا تیل کھانے کی خواہش ہوئی تو ہم نے اس کا زیتون کا تیل ضائع کر دیا اور اس کے دل پر ایک چوٹ اور لگا

دی اور اس کے نتیجے میں اس کا وہ گناہ بھی ختم ہو گیا، اور اب وہ ہمارے پاس دھلا دھلا پاک صاف ہو کر آئے گا۔ لہذا کہاں تک انسان اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا ادراک کرے گا۔

حضرت خدیجۃ الکبریٰؓ کو نوازنے کا انداز

میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا اتفاق سے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، اور تلاش بھی کیا لیکن نہیں ملا، آپ حضرات بھی تلاش کیجئے گا، مل جائے تو مجھے اس کا حوالہ بتادیں۔ وہ قصہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار تھیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی تکلیف کا اظہار کر رہی تھیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ تمہاری تکلیف جان لیوا تکلیف ہے، تم اب بچو گی نہیں، اسی بیماری میں تمہارا انتقال ہو جائے گا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحیم و کریم تھے، بڑے شفیق اور مہربان تھے، اور پھر عام لوگوں کو بھی یہ حکم ہے کہ جب آدمی کسی کی عیادت کے لئے جائے تو جا کر اس کو تسلی دے، نہ یہ کہ اس کو یہ کہے کہ تم اس بیماری میں مر جاؤ گے، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، اور بیوی بھی ایسی ہمدرد اور غمگسار تھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر ان کو

یاد فرمایا۔ ایسی بیوی سے آپ نے یہ جملہ کیسے فرمادیا کہ تم اس بیماری میں بچو گی نہیں، بلکہ مر جاؤ گی؟

حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علماء کرام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آخرت میں جنت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا تھا، لیکن اعمال کے ذریعہ وہ ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچ سکی تھیں، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت میں اپنے ساتھ رکھنے کی خاطر یہ عمل کیا کہ ان کے سامنے ایسے الفاظ کہے، تاکہ اس کے ذریعہ ان کے دل پر چوٹ لگے اور اس چوٹ لگنے کے نتیجے میں ان کے درجات بلند ہو جائیں اور آخرت میں یہ میرے پاس آجائیں۔

تکالیف پر رضا مند کی درجات کی بلندی کا ذریعہ

بہر حال! یہ تکلیف اور یہ بیماری جو تمہیں دنیا میں پہنچ رہی ہے، تمہیں کیا معلوم کہ یہ تمہارے حق میں فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، لیکن حقیقت میں ان کے آخرت میں فائدہ مند ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں، بشرطیکہ تم اس پر راضی رہو۔ لہذا اپنی طرف سے یہ کہنا کہ اب تو زندگی بیکار ہے، یہ بہت غلط بات ہے اور بے ادبی کا جملہ ہے، اسی وجہ سے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے، ارے کیا معلوم کہ اگر وہ موت جس کو تم مانگ رہے ہو، وہ ابھی آگئی، اور مرنے کے بعد سیدھے مقام غضب میں پہنچ گئے، تو بتائیے موت آنے کا

کیا نتیجہ ہو؟

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے
مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے

موت اس وقت قابلِ محبت ہے جب اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کا مقام
رضا حاصل ہو، اس وقت بیشک موت محبوب چیز ہے، لیکن تمہیں کیا معلوم کہ
مرنے کے بعد کہاں پہنچو گے، اس لئے موت کی تمامت کرو۔

موت کی دعا کے بجائے یہ دعا کریں

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تلقین فرمائی، وہ تو یہ ہے

کہ:

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَيَّ الْخَلْقِ
أَخْبِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا
عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي

(کنز العمال، حدیث نمبر ۳۶۱۱)

یعنی اے اللہ! آپ کے علمِ غیب کا واسطہ دیکر اور مخلوق پر
آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ!
جب تک آپ کے علم میں میرے لئے زندگی بہتر ہو،
مجھے زندہ رکھئے، اور جب میرے حق میں موت بہتر ہو،
اس وقت مجھے موت دید دیجئے۔

یہ دعا کرنی چاہئے نہ یہ کہ یہ کہا جائے کہ بس اب تو مجھے موت ہی آجائے تو اچھا ہے، اب تو زندگی سے دل بیزار ہو گیا ہے، اب تو بس اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے۔ یہ سب بے ادبی کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی رائے چلانا ہے۔

تین سبق

بہر حال، اس ملفوظ سے تین سبق ملے، پہلا سبق یہ ملا کہ صحت کی دعا کرنا سنت ہے، دوسرا سبق یہ ملا کہ ایسے انداز سے دعا نہ کرے جس میں شکوہ و شکایت کا انداز ہو، تیسرا سبق یہ ملا کہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے یا بیماری کے طول کی وجہ سے یہ دعا کرنا کہ مجھے موت آجائے، یہ دعا کرنا درست نہیں۔ دعا وہ کرے جو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یا اللہ! جب تک زندگی بہتر ہو، اس وقت تک زندہ رکھے، اور جب میرے حق میں موت بہتر ہو، اس وقت موت عطا فرما دیجئے۔ یا پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی یہ دعا کرے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ تَفْجِیْلَ عَافِیَّتِكَ وَصَبْرًا عَلٰی
بَلِیَّتِكَ وَخُرُوْجًا مِّنَ الدُّنْیَا اِلٰی رَحْمَتِكَ۔

(کنز العمال، حدیث نمبر ۳۶۹۸)

اے اللہ! میں آپ سے جلدی کی عافیت اور مصیبت پر صبر اور دنیا سے آپ کی رحمت کی طرف خروج کا سوال

کرتا ہوں۔

لہذا یہ دعا کرنی چاہئے اور براہ راست موت کی دعا نہیں کرنی چاہئے۔

اپنی طرف سے تجویز مت کرو

بہر حال، ان صاحب نے خط میں یہ لکھا تھا کہ رنج اس بات کا ہے کہ آنکھ جاتی رہی، اب تلاوت نہیں کر سکتا، موعظہ نہیں پڑھ سکتا، اس کا بڑا سخت رنج ہے۔ اس کے جواب میں حضرت والا نے لکھا کہ تلاوت اور کتب نبی میں ثواب اور رضا منحصر نہیں، تم نے اپنی طرف سے تجویز کر لیا کہ مجھے تو ثواب تلاوت قرآن کریم ہی کے ذریعہ حاصل ہوگا، اور چونکہ اب آنکھیں نہ رہیں تو اب میں ثواب سے محروم ہو گیا۔ ارے یہ تو اللہ جل شانہ کے ساتھ بدگمانی ہے، یہ بدگمانی مت کرو، البتہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی رہو، اسی پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔

حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ

بڑے قاری صاحب حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ساری عمر مجتہم تلاوت تھے، روئیں روئیں میں قرآن کریم بسا ہوا تھا، ان کی کیفیت بالکل اس دعا کے مطابق تھی:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ رِبِيْعَ قَلْبِيْ وَنُوْرًا

بَصْرِيْ وَجِلَاءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِيْ -

اے اللہ! قرآن عظیم کو میرے دل کی تازگی، میری آنکھوں کے لئے نور، میرے غم اور پریشانی کو دور کرنے کا سبب بنا دیجئے۔ اگر قاری صاحب کو دیکھا نہ ہو تا تو یقین نہ آتا کہ ایسا انسان بھی دنیا میں ہو سکتا ہے، قرآن کریم ان کی زندگی میں رچا بسا ہوا تھا، اور رگ و پے میں سرایت کیا ہوا تھا، ہر وقت سراپا تلاوت تھے، کوئی لمحہ تلاوت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔

لیکن آخر میں فالج کا حملہ ہوا، اور زبان بند ہو گئی، اب وہ شخص جس کی زبان ہر وقت تلاوت سے تر رہتی تھی، اس کی زبان بند ہو گئی، جب میں ان کو اس حالت میں دیکھتا تو کبھی کبھی بڑا دل دکھتا اور صدمہ ہوتا کہ یا اللہ! جس نے سازی عمر تلاوت قرآن میں گزاری، اب اس کی زبان بند ہو گئی، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اب آخری وقت میں لینے لینے تلاوت ہی کرتے رہیں۔ بہر حال، ان کو دیکھ کر بڑی حسرت ہوتی تھی، لیکن فوراً میرے دل میں دوسرا خیال آیا کہ درحقیقت اللہ جل شانہ اس کے ذریعے یہی تو دکھانا چاہتے ہیں کہ نہ تلاوت میں کچھ رکھا ہے، اور نہ ترک تلاوت میں کچھ رکھا ہے، ہم جس حالت میں رکھیں، بندے کے لئے اسی میں خیر ہے، جب ان کو تلاوت کا ذوق تھا اور زبان سے ہر وقت تلاوت جاری تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ تلاوت کے ذریعہ ان کے درجات بلند فرما رہے تھے، اور اب جبکہ تلاوت جزو زندگی بن گئی تو ان کی زبان بند کر دی گئی، اب ان کو اس خاموشی پر اور زبان بندی پر وہی اجر مل رہا ہے جو تلاوت پر مل رہا تھا، بلکہ شاید تلاوت سے زیادہ اب اجر مل رہا ہے، اس لئے کہ تلاوت میں تو ان کو لذت آنے لگی تھی، اور اب تو تلاوت کے لئے

زبان بند کر دی گئی، اب تلاوت کے لئے دل چاہ رہا ہے اور حسرت ہو رہی ہے، مگر زبان نہیں کھلتی، تو اب تلاوت کا ثواب ان کو الگ مل رہا ہے اور تلاوت نہ کرنے پر حسرت کا ثواب الگ مل رہا ہے، اس طرح ہم نے ان کے درجات کی بلندی کا ذیل سامان کر دیا۔ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے ہو رہے ہیں، کون اس میں دخل دے سکتا ہے۔

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

چونکہ برمیخند ببنند و بست باش

چوں کشاید چابک و برجت باش

یعنی جب اللہ تعالیٰ تمہیں کہیں باندھ کر ڈال دیں تو بندھے پڑے رہو، تمہاری عبادت یہی ہے، اس لئے کہ یہ ان کی طرف سے ہے۔

ہمارا حکم اور ہمارا فیصلہ ہی سب کچھ ہے

لہذا تمہارے دل میں یہ جو خیال پیدا ہو رہا ہے کہ مجھ سے تلاوت نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا شوق پورا نہیں ہو رہا ہے، اس لئے اس کا صدمہ ہو رہا ہے۔ ارے اگر مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو پھر تلاوت بند ہونے کے وقت بھی وہی رضا حاصل ہوگی جو رضا تلاوت کے وقت حاصل تھی، اس لئے یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس عمل سے خوش ہیں۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ میں بڑی عبرت ہے، میں ان کو دیکھ کر یہ سوچتا کہ یہ شخص جس نے ساری عمر قرآن کریم کی تلاوت میں گزاری، لیکن آج اللہ

تعالیٰ یہ جلوہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو! وہ شخص جو ہمارے کلام کا ایسا عاشق تھا، ہم نے اس کی زبان بند کر دی کہ قرآن کا ایک لفظ نہ پڑھ سکے۔ یہ سب اس لئے کیا تاکہ دنیا کو دکھادیں کہ کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا، سب کچھ ہمارے حکم اور ہمارے فیصلے میں ہے، ہم جو فیصلہ کریں اور جو حکم دیں حقیقت میں وہ دین ہے۔

بیماری میں سابقہ عمل کا ثواب ملتا رہتا ہے

آگے فرمایا کہ:

اول تو صحت کی حالت میں تطوع پر مداومت کرنے والے کو مرض میں بدون عمل کئے بھی ثواب عمل سابق کا ملتا رہتا ہے، دوسرے بعض اوقات صبر کا اجر عمل کے اجر سے بڑھ جاتا ہے۔

یعنی ایک شخص صحت کی حالت میں ایک نقلی عبادت کا عادی ہے، مثلاً وہ روزانہ ایک پارہ تلاوت قرآن کرتا ہے، اب بیمار ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے تلاوت نہیں کر سکتا، تو جتنے دن بیماری کی وجہ سے تلاوت نہیں کرے گا تو اس کو روزانہ ایک پارہ تلاوت کرنے کا ثواب ملتا رہے گا، دوسرے بعض اوقات صبر کا اجر عمل کے اجر سے بڑھ جاتا ہے، مثلاً ایک شخص عمل کرنے کا اتنا عادی ہو گیا کہ وہ عمل اس کی زندگی کا جز بن گیا کہ اس کی رگ و پے میں سا گیا، اب اللہ تعالیٰ نے کوئی مجبوری ایسی پیدا کر دی کہ اب وہ اس عمل کو نہیں کر سکتا، تو اب وہ شخص عمل نہ ہو سکنے پر جو صبر کر رہا ہے اس صبر کا اجر اصل عمل کے اجر سے بڑھ جاتا ہے،

چنانچہ خود تلاوت کرنے پر اس کو اتنا اجر نہ ملتا جتنا اس کو صبر کرنے پر مل رہا ہے۔

بینائی کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں

آگے حضرت والا نے فرمایا کہ ”البتہ بینائی کی دعا خود رائی نہیں“ یعنی یہ دعا کرنا کہ یا اللہ! بینائی عطا فرما دیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت ہے۔ لہذا دعا مانگے اور دل سے مانگے اور ساتھ میں یہ سمجھے کہ اگر اس کے خلاف واقع ہوا وہ بھی خیر ہے، اس پر بھی راضی رہے“ یعنی دعا کرنے کے باوجود بینائی نہ ملی تو یہ سمجھے کہ میرے لئے بہتری اسی میں ہے۔

حضرت تھانویؒ اور فہم دین

اشرف تعالیٰ نے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دین کی جو فہم عطا فرمائی تھی، جس کے نتیجے میں دین کی ایک ایک بات واضح فرمادی، حقیقت یہ ہے کہ اب ان جیسی فہم کا آدمی نظر نہیں آتا، انہوں نے تجزیہ کر کے چھان پھانک کر ایک ایک چیز الگ کر دی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے چلے گئے اور صدیوں کے لئے راستہ واضح کر دیا۔ اب اسی ملفوظ کے اندر دیکھئے کہ ایک چھوٹی سے بات تھی، لیکن اس میں کتنے سبق سکھادیئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

دنیا و آخرت دونوں

اللہ سے مانگیں

جس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی



منیہا و ترتیب
موسیٰ راشدین

مجین اسلامک پبلشرز

۱/۱۸۸، میاں سٹریٹ، لاہور

مقام خطاب : جامع مسجد دارالعلوم کراچی

وقت خطاب : بعد نماز ظہر۔ رمضان المبارک

اصلاحی مجالس : جلد نمبر ۳

مجلس نمبر : ۳۸

صفحات : ۱۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

مجلس نمبر ۲۸

دنیا و آخرت دونوں اللہ سے مانگیں

الحمد لله رب العالمين - والعاقبة للمتقين -

والصلوة والسلام على رسوله الكريم -

وعلى آله واصحابه اجمعين - أما بعد!

دنیاوی مقاصد کی دعا نہ مانگنا بے ادبی ہے

ایک صاحب نے حضرت والا کو خط میں لکھا کہ:

دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے مطالب پورا کریں یا نہ

کریں، لیکن مقصود حقیقی یعنی رضاء مولیٰ ہمیشہ نصیب

رکھیں۔

جواب میں حضرت والا نے لکھا کہ:

یہ کہنا بے ادبی ہے، ہم کو دنیا کے مطالب کی بھی حاجت

ہے، دعایہ کرنی چاہئے کہ دارین کے مطالب پورے ہوں۔

(انفاس عیسیٰ ص ۷۸)

یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے مقاصد پورے کریں یا نہ کریں، اس کی تو ہمیں پروا نہیں، بس اللہ تعالیٰ وہاں کی رضا عطا فرمادے، یہ کہنا بے ادبی ہے۔ ارے ہم تو دنیا کے مطالب کے بھی محتاج ہیں، دعایہ کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ دارین کے مقاصد پورے فرمادیں۔ دنیا کے مقاصد بھی مانگنا ضروری ہے، اگر تین دن کھانا نہ ملے تو ساری اکڑ فون نکل جائے گی اور حالت خراب ہو جائے گی۔ ارے ہم تو روٹی کے محتاج، کھانے کے محتاج، پانی کے محتاج، صحت کے محتاج، ہر چیز کے محتاج ہیں، اس لئے اپنی ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو، دنیا کی حاجتیں بھی پیش کرو اور آخرت کی حاجتیں بھی پیش کرو۔

ایک بزرگ کا سبق آموز واقعہ

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ سے یہ واقعہ سنا کہ ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں اس درجہ مستغرق ہوئے اور ذکر اللہ میں ان کو اتنا مزہ آیا کہ ایک مرتبہ غلبہ حال میں ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ:

وَلَيْسَ لِي فِي سِوَاكَ حَظٌّ

فَكَيْفَ مَا بَشَيْتَ فَاخْتَبِرْنِي

اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے، آمین۔ یہ بڑا خطرناک جملہ تھا۔ یعنی فرمایا کہ اے اللہ! مجھے آپ کے سوا کسی چیز میں لذت نہیں، کسی چیز میں حظ نہیں، بس آپ کے ذکر و فکر میں لذت آتی ہے۔ آگے فرمایا کہ آپ جس طرح چاہیں مجھے آزما کر دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو آزمانے کی دعوت، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پیشاب بند کر دیا، اب مثانہ پیشاب سے بھرا ہوا ہے، درد اور تکلیف ہے لیکن پیشاب خارج نہیں ہو رہا ہے۔

انسان کو تو پیشاب کی بھی حاجت ہے

اس کے ذریعہ ان کو یہ دکھایا گیا کہ تم یہ کیا دعویٰ کر رہے تھے کہ آپ کے سوا کسی چیز میں مجھے حظ نہیں، ارے تمہیں تو پیشاب میں بھی حظ ہے، تمہیں تو پیشاب کی بھی حاجت ہے، اگر یہ بند ہو جائے تو تمہاری زندگی اجیرن بن جائے۔ سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، توبہ کی اور استغفار کیا، ان کے پاس چھوٹے بچے قرآن شریف پڑھنے آیا کرتے تھے، ان بچوں سے کہتے کہ ارے بچو!

ادْعُوا الْعَمَلَكُمْ الْكُذَّاب

اپنے جھوٹے چچا کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس لئے کہ اس نے یہ جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ مجھے آپ کے سوا کسی چیز میں حظ اور مزہ نہیں ہے۔

ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے

بہر حال، وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ اس سے استغناء برتا جائے، نہ دنیا کے معاملے میں اور نہ ہی آخرت کے معاملے میں، ارے ہم تو اس کے سامنے دنیا کی حاجات بھی پیش کریں گے اور آخرت کی حاجات بھی پیش کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے کہ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے کیا چیز نہیں مانگی، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی، دنیا کا رزق بھی مانگا، صحت بھی مانگی، فقر سے پناہ مانگی، کسل سے پناہ مانگی، بزدلی سے پناہ مانگی، اور دنیا کی تمام حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش فرمائیں، اس لئے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے مطالب پورے کریں یا نہ کریں، بس رضاء مولیٰ ہمیشہ نصیب رہے۔ یہ کہنا بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے۔

جامع دعا کر لینا کافی ہونا چاہئے

ایک صاحب نے حضرت والا کو لکھا کہ:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ایک جامع دعا ہے۔ اس کے علاوہ

بہت سی دعائیں ہیں، اب میں خیال کرتا ہوں کہ جب

ہم نے ایک باغ مانگ لیا جس میں گلاب، لیموں، نارنگی

وغیرہ کل اشیاء موجود ہیں، پھر علیحدہ علیحدہ لیموں، نارنگی

مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟

(انفاس عیسیٰ ص ۷۸)

یہ دعا رَبَّنَا اِنْتَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ اِلٰخ یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اس میں کیا چیز چھوٹی ہوئی ہے کہ یا اللہ! دنیا میں بھی اچھائی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اچھائی دیتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچالیتے۔ اس دعا میں دنیا و آخرت کی ساری ضرورتیں جمع ہو گئیں۔ تو ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک باغ مانگ لیا جس میں گلاب بھی ہے، لیموں بھی ہے، نارنگی بھی ہے، پھر علیحدہ علیحدہ گلاب، لیموں، نارنگی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ تھا کہ جب یہ جامع دعا موجود ہے جس میں دنیا و آخرت کی ساری ضرورتیں آگئیں تو بس اب ہر وقت یہی دعا کرتے رہیں، دوسری دعائیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، مثلاً یہ کہ یا اللہ! رزق بھی دیدے، یا اللہ! صحت بھی دیدے، یا اللہ! پیسے بھی دیدے، یا اللہ! روزگار بھی دیدے، یا اللہ!

قرضہ ادا کرادے، یہ الگ الگ چیزیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟

علیحدہ علیحدہ دعائیں کرنے میں خشوع زیادہ ہوتا ہے

جواب میں حضرت والا نے لکھا کہ:

حق تعالیٰ کے دربار میں خشوع و خضوع بڑی چیز ہے، تجربہ یہ ہے کہ خاص خاص چیزوں کے مانگنے میں زیادہ خشوع ہوتا ہے، اسی واسطے احادیث میں جامع دعاؤں کے

علاوہ خاص خاص مقاصد کی بھی دعائیں آئی ہیں۔
(انفاس بیسی ص ۷۸)

حضور ﷺ نے ہر ہر چیز علیحدہ علیحدہ بھی مانگی

مثلاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ
الشَّرِّ كُلِّهِ۔

یعنی اے اللہ! میں آپ سے تمام خیر کا سوال کرتا ہوں
اور تمام شر سے پناہ مانگتا ہوں۔

دیکھئے اس ایک دعا میں سب کچھ مانگ لیا، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دعا بھی کر
رہے ہیں کہ یا اللہ! صحت دیدے، یا اللہ! عفت دیدے، یا اللہ! امانت دیدے، یا
اللہ! حسن اخلاق دیدے، یا اللہ! رضا بالقدر دیدے، یہ تمام چیزیں علیحدہ علیحدہ
مانگ رہے ہیں۔ اس لئے کہ ہر ایک چیز کے مانگنے کا مزہ اور لطف الگ ہے،
چھوٹی چھوٹی چیز مانگنے کا ایک کیف ہوتا ہے اور جب انسان اپنی متعین حاجت کو
مانگتا ہے تو اس کو دل لگا کر مانگتا ہے اور زیادہ گڑگڑا کر زیادہ خشوع کے ساتھ مانگتا
ہے۔

دعا کی تعداد میں اضافہ

دوسری بات یہ ہے کہ انسان ہر ہر چیز کے لئے جتنی مرتبہ دعا کرے گا

اتنا ہی دعا کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ مثلاً

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

اب اگر اسی دعا کو دہرانے کا ارادہ کیا تو دو مرتبہ دہرا لو گے، تین مرتبہ یا چار مرتبہ دہرا لو گے، دس مرتبہ دہرا لو گے، لیکن اس کے برخلاف انسان کو جتنی حاجتیں مطلوب ہیں، ان حاجتوں میں سے ایک ایک کا تصور کر کے جب انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے گا کہ یا اللہ! روٹی دیدے، یا اللہ! رزق دیدے، یا اللہ! روزگار دیدے، یا اللہ! مجھے نماز کی توفیق دیدے، یا اللہ! مجھے ذکر کی توفیق دیدے، یا اللہ! مجھے تلاوت کی توفیق دیدے وغیرہ، جب اس طرح ہر ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ مانگے گا تو دعا کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔

ہر ہر دعا مستقل عمل صالح ہے

اور جتنی مرتبہ دعا کرے گا، اتنا ہی اجر زیادہ لکھا جائے گا، کیونکہ ہر دعا ایک مستقل عمل صالح ہے، ہر دعا ایک مستقل حسنہ ہے، لہذا کثرت سے دعا کرنا چاہئے۔ اسی لئے حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جوئے کا تمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ! میرے جوئے کا تمہ ٹوٹ گیا ہے، مجھے دوسرا عطا فرما دیجئے، تاکہ مقصود بھی حاصل ہو اور ثواب بھی ملے، اس لئے صرف جامع دعاؤں پر اکتفا کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اختصار

مطلوب نہیں، وہاں پر توجہی تفصیل ہوتی ہی بہتر ہے،

حضور ﷺ کا لگاتار دعائیں کرنا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع فرماتے ہیں تو کئی دعائیں ایک ساتھ ملاتے چلے جاتے ہیں۔ مثلاً آپ نے ایک دعا یہ فرمائی:

اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا،
وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا،
وَارْضِنَا وَارْضَ عَنَّا.

(کنز العمال، حدیث نمبر ۳۶۳۰)

اس دعا کا ایک ایک جملہ اپنی اپنی جگہ پر جامع ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ہی دعا میں کئی جملے حرف عطف کے ذریعہ ملا دیئے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ! زیادہ عطا فرما اور کمی نہ فرما، عزت عطا فرما اور ذلت سے بچا، ہمیں عطا فرما اور محروم نہ فرما، اور ہمیں ترجیح دیجئے اور دوسروں کو ہم پر ترجیح مت دیجئے، ہمیں راضی کر دیجئے اور ہم سے راضی ہو جائیے۔

ایک اور دعا میں آپ ﷺ نے فرمایا:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلِكُ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ
وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَا بِالْقَدْرِ.

(کنز العمال، ج ۲/ص ۱۸۳/حدیث نمبر ۳۶۵)

یعنی اے اللہ! میں آپ سے صحت، عفت، امانت، حسن

اخلاق اور ضابطہ القضاء کا سوال کرتا ہوں۔

لہذا کوئی ایسی دعا نہیں ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں جمع نہ فرمائی ہوں۔ اس لئے کہ دعا کے اندر تفصیل مقصود ہے، اختصار مقصود نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مظاہرہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور خوب مانگے۔ بہر حال، دعا میں اختصار پسندیدہ نہیں بلکہ تفصیل پسندیدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جامع دعا بھی کرنی چاہئے۔

صبح کے وقت کی دعائیں

مثلاً جب صبح کے وقت اٹھیں تو یہ دعا کرنی چاہئے اور اس کو اپنے معمول میں داخل کرنا چاہئے:

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَى
وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔

اے اللہ! ہمیں آپ ہی کی توفیق سے صبح نصیب ہوئی اور آپ ہی کی توفیق سے شام ملی، آپ ہی کی قدرت سے جیتے ہیں اور آپ ہی کی قدرت سے مرے گے اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

اور یہ دعا پڑھیں:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا

بَعْدَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا
بَعْدَهُ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَفَتْحَهُ
وَنَصْرَهُ وَنُوْرَهُ وَبِرَّكَّتَهُ وَهُدَاهُ۔

اے اللہ! میں آج کے دن کی اور اس کے بعد کی بھلائی
آپ سے مانگتا ہوں، اور آج کے دن کے شر اور اس کے
بعد کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ! میں آپ
سے آج کے دن کی بھلائی اس کی فتح و کامیابی، اس کا نور،
اس کی برکت اور اس کی ہدایت مانگتا ہوں۔

اور یہ دعا پڑھیں:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوَّلَ هَذَا النَّهَارِ صَلاَحًا وَاَوْسَطَهُ
فَلَاحًا وَاٰخِرَهُ نَجَاحًا۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ
الدُّنْيَا وَاَلْاٰخِرَةِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ
اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَجِيئُ بِهٖ الرِّيَّاحُ۔

اے اللہ! اس دن کے اول حصے کو نیکی بنائیے، درمیانی حصے
کو فلاح کا ذریعہ اور آخری حصے کو کامیابی بنائیے۔ یا ارحم
الراحمین! میں دنیا و آخرت کی بھلائی آپ سے مانگتا ہوں۔
اے اللہ! میں ان چیزوں کی بھلائی مانگتا ہوں جن کو
ہوائیں لاتے ہیں۔

یہ تمام دعائیں فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرو، یہ جامع دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سبھی کچھ آگیا، سارے دن کی خیر حاصل ہو گئی اور سارے دن کی برائیوں سے پناہ مل گئی۔ لیکن یہ نہ سوچیں کہ اب تو ہم یہ دعائیں کر چکے، اب مزید کسی دعا کی ضرورت نہیں، بلکہ پورے دن میں جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو اس وقت پھر دعا کریں کہ یا اللہ! یہ دیدے، یا اللہ! یہ ضرورت بھی پوری فرمادے، مانگتے رہو، اور اس کثرت دعا کے نتیجے میں تعلق مع اللہ مضبوط ہوتا ہے، اور سارے تصوف اور سلوک کی جان تعلق مع اللہ کا قوی ہونا ہے، جتنا انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، جتنا زیادہ پکارے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے رابطہ مستحکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

رمضان کی عبادات پر شکر ادا کریں

بہر حال، رمضان المبارک کا مہینہ اب ختم ہو رہا ہے، اس مبارک مہینے میں جو اعمال کی توفیق ہوئی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان عبادات کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ ہم تو ناقص در ناقص در ناقص ہیں، لیکن توفیق ان کی تھی، انہوں نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق دی، تلاوت قرآن کریم کی توفیق دی، اور جب انہوں نے ہی ان عبادات کے کرنے کی توفیق دی تو ان اعمال کو قبول بھی ضرور فرمائیں گے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی بدگمانی مت کیا کرو کہ یہ عبادت قبول نہیں ہوگی،

ارے جب عمل کی توفیق دی ہے تو انشاء اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔

اپنی کوتاہیوں پر استغفار کریں

جہاں تک ان عبادات میں کوتاہیوں کا تعلق ہے، تو بھائی، کب تک اپنی کوتاہیوں کا مراقبہ کرتے رہو گے؟ ارے ان کی رحمت کا مراقبہ کرو، ان کی رحمت کے مقابلے میں تمہاری کوتاہیاں کیا حقیقت رکھتی ہیں۔ البتہ جو کوتاہی ہو جائے اس پر استغفار کر لیا کرو کہ یا اللہ! اس عبادت میں جو کوتاہی ہوئی ہے، میں اس سے استغفار کرتا ہوں،

استغفر اللہ، استغفر اللہ رَبِّیْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ

وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔

استغفار کے نتیجے میں وہ کوتاہی دور ہو جائے گی۔

ہم بڑے خوش قسمت ہیں

عید کی نماز کے بعد جب ہم حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے تو اس وقت اس قدر کھلے ہوتے تھے جیسے گلاب کا پھول کھلا ہوتا ہے، اور اس وقت فرماتے کہ الحمد للہ، ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوری امید رکھو کہ ہم سب کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمادی ہے، اور ہم سب اس وقت ایسی حالت میں ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سینئات کو بھی حسنت سے تبدیل کر دیا ہے۔

رمضان کے بعد کی زندگی بھی درست رکھیں

بہر حال، اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر کر لو اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار کر لو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھو، انشاء اللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ جہاں تک حق او اکر نے کا تعلق ہے تو حق پورا تو آج تک کوئی ادا نہ کر سکا اور نہ آئندہ ادا کر سکے گا۔ یہ ایام رمضان امید کے ایام ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان امیدوں کو سچا کر دکھائے اور رمضان کے بعد کی زندگی کو اللہ تعالیٰ استوار کر دے، آمین۔ یہ نہ ہو کہ رمضان میں تو ساری عبادتیں ہو گئیں، روزہ کی عبادت بھی ہو گئی، تراویح کی عبادت بھی ہو گئی، اعتکاف کی عبادت بھی ہو گئی، تلاوت کی عبادت بھی ہو گئی اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا بس ساری عبادتیں چھوٹ گئیں۔ پھر وہی گناہ اور معصیتیں، وہی زندگی دوبارہ شروع ہو گئی جو رمضان سے پہلے تھی، ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کی بھی دعا مانگنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ کی زندگی استوار فرمادے اور اپنی رضا کے مطابق بقیہ زندگی گزار دے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

